


FREE

ریاضی جماعت چہارم

MATHEMATICS - CLASS IV



یہ کتاب حکومت تلنگانہ کی جانب سے مفت تقسیم کے لیے ہے۔

ناشر حکومت تلنگانہ، حیدرآباد

یہ کتاب حکومت تلنگانہ کی جانب سے مفت تقسیم کے لیے ہے

ریاضی جماعت چہارم

ریاضی جماعت چہارم




MATHEMATICS - CLASS IV



حکومت تلنگانہ، حیدرآباد

یہ کتاب حکومت تلنگانہ کی جانب سے مفت تقسیم کے لیے ہے

Graph Paper



بچو! یہ ہدایتیں آپ کے لیے ہیں۔

- ☆ درسی کتاب میں دیئے گئے ہر ایک تصور سے آگئی کے لیے **Situations** یا مثالیں یا سوالات یا کھیل وغیرہ دیے گئے ہیں۔ ان سے متعلق تصویریں/خاکے بھی دیے گئے ہیں۔ **Situation** کو خاکہ/تصویر سے جوڑتے ہوئے تصور کو جانے کی کوشش کریں۔
- ☆ تصورات کی تفہیم کے لیے مشغلوں میں حصہ لینے کے دوران پیدا ہونے والے شکوہ و شبہات کا ازالہ آپ اپنے معلم سے فوراً کر لیں۔
- ☆ تصورات کا فہم حاصل ہوا ہے یا نہیں جانے کے لیے آپ ”یہ کیجیے“ کے تحت دیئے گئے سوالات خود حل کریں۔ اگر آپ حل نہ کر پائیں تو نمونہ کے طور پر دیا گیا مسئلہ حل کرتے ہوئے آگئی حاصل کریں۔ یا اپنے معلم سے معلوم کریں۔
- ☆ ”کوشش کیجیے“، ”عنوان کے تحت دیے گئے سوالات آپ کی سوچ کو باہر نے میں مدد و معاون ثابت ہوں گے۔ یعنی آپ میں خور و فکر کی صلاحیت کو فروغ دیں گے۔ یہ مسائل آپ خود سے حل نہ کر پائیں تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ گروہی طور پر حل کرنے کی کوشش کریں یا معلم سے لفتگو کرتے ہوئے کس طرح حل کیا جائے معلوم کریں۔
- ☆ ”یہ کیجیے“ اور ”کوشش کیجیے“ کے تحت دیئے گئے سوالات معلم کی نگرانی میں اسکوں ہی میں حل کریں۔
- ☆ ”درسی کتاب میں جہاں کہیں بھی منصوبہ کام دیا گیا ہے۔ اسکو گروہی طور پر حل کریں۔ لیکن اس سے متعلق رپورٹ آپ کو انفرادی طور پر لکھنا ہو گا۔
- ☆ تصورات کی تفہیم کے لیے منعقد کیے جانے والے مشغلوں اور مشقوں کے تحت جو سوالات ہیں۔ ان سے متعلق رد عمل اگر درسی کتاب میں لکھنا ہو تو وہیں پر لکھیں۔
- ☆ جس دن جو سوالات حل کرنا ہے ان کی تکمیل اسی روز کر لیں اور اپنے معلم سے تصحیح کروالیں۔
- ☆ آپ سیکھے ہوئے تصورات سے متعلق مسائل مزید چند حاصل کر کے یا خود سے تیار کر کے اپنے معلم یا ساتھیوں کو دکھائیں سب مل کر ان کو حل کریں۔
- ☆ ریاضی کے تصورات سے تعلق رکھنے والے کھیل، معنے اور لجپی معلومات آپ کی درسی کتاب میں دیے گئے ہیں۔ ان کے بارے میں آگئی حاصل کر کے ان جیسے مزید چند مسائل حاصل کر کے ان کو حل کریں۔
- ☆ درسی کتاب کے ذریعہ سے ہوئے تصورات کو کمرہ جماعت مدد و معاون رکھیں بلکہ ان کا استعمال اپنی روزمرہ زندگی میں موقع و محل کے اعتبار سے کریں۔
- ☆ ریاضی میں خاص طور پر مسئلہ کا حل، وجوہات بیان کرنا، نتیجہ اخذ کرنا، ریاضی کی زبان میں اظہار ریاضی کے تصورات کا فہم حاصل کرتے ہوئے مختلف حالات اور روزمرہ زندگی سے جوڑتے ہوئے حل کرنا وغیرہ جیسی صلاحیتوں کے حاصل ہونا چاہیے۔
- ☆ ذکورہ بالا ریاضی کے تصورات کے حصول کے لیے، تصورات کی تفہیم کے تحت اگر آپ کو دشوار یا پیش آتی ہوں تو بروقت معلم کی مدد حاصل کریں۔

ریاضی

Mathematics - Class IV

جماعت چہارم

کمیٹی برائے فنروغ و اشاعت درسی کتاب

چیف ایکریزکووٹیو آفیسر

اے ستینار انسار یڈی

ڈائرکٹر ریاستی ادارہ برائے تعلیمی تحقیق و تربیت آندھرا پردیش، حیدرآباد

چیف ایکریزکووٹیو آرگانائزر

شری۔ بی۔ سدھا کر

ڈائرکٹر گورنمنٹ ٹکسٹ بک پرنسپل، حیدرآباد

آرگانائزنگ انچارج

ڈاکٹر این۔ او پیندر ریڈی

پروفیسر شعبہ نصاب و درسی کتب، ریاستی ادارہ برائے تعلیمی تحقیق و تربیت، تلنگانہ، حیدرآباد



ناشر

حکومت تلنگانہ حیدرآباد

تعلیم کفر یا گے بڑھیں
صبر و تحمل سے پیش آئیں

وتanon کا احترام کریں
اپنے حقوق حاصل کریں

© Government of Telangana, Hyderabad.

First Published 2013

New Impressions 2014, 2015, 2017, 2018

All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means without the prior permission in writing of the publisher, nor be otherwise circulated in any form of binding or cover other than that in which it is published and without a similar condition including this condition being imposed on the subsequent purchaser.

The copy right holder of this book is the Director of School Education, Hyderabad, Telangana.

This Book has been printed on 70 G.S.M. Maplitho Title

Page 200 G.S.M. White Art Card

یہ کتاب حکومت تلنگانہ کی جانب سے مفت تقسیم کے لیے ہے۔ 2018-19

Printed in India
for the Director, Telangana Govt. Text Book Press,
Mint Compound, Hyderabad,
Telangana

کمیٹی برائے تشکیل درسی کتاب

مصنفوں

- سری کے اجنبی ریڈی، کو آرڈنیٹر، نصابی کتب، ایس سی ای آرٹی، حیدر آباد۔
سری اسی ماتحت کیشور ایڈی، SGT، پی ایس موتالا پلی، ضلع کریم نگر۔
سری کے سریدھر پاریولو، SA، زیڈی پی ایچ ایس، رنگیا لپی، ضلع میدیک۔
سری اسی ماتحت کیشور ایڈی، SGT، یوپی ایس ویلی پلی، ضلع علی گڑھ۔
سری اسی ماتحت کیشور ایڈی، SGT، یوپی ایس لکنم پیٹھ، ضلع کریم نگر۔
سری اسی ماتحت کیشور ایڈی، SGT، یوپی ایس، لکنم پیٹھ، جگتیاں، ضلع کریم نگر۔
سری اسی ماتحت کیشور ایڈی، SGT، یوپی ایس، دانی سیکھی، ضلع وجہا نگر۔
سری اسی ماتحت کیشور ایڈی، SGT، یوپی ایس پیر اویلی، ضلع مغربی گوداواری۔
سری اسی ماتحت کیشور ایڈی، SGT، یوپی ایس پونتا، ضلع عادل آباد۔

سری ایک راما نجیبیلو، لکھر، ڈائیٹ وقار آباد، ضلع رکاریڈی

کواہد نیشن

جناب محمد افتخار الدین، کو آرڈنیٹر (اردو)

ریاستی ادارہ برائے تعلیمی تحقیق و تربیت، تلنگانہ، حیدر آباد۔

ایڈیٹر سوس بوابے انگریزی

- ڈاکٹر ایس سوریش بالوپر فیسر، ایس سی ای آرٹی، اے پی حیدر آباد۔
جناب ظہیر الدین، ہمیڈ ماسٹر، گورنمنٹ بائی اسکول، وجہ نگر کالونی، حیدر آباد۔
جناب سید واحد باشی، ہمیڈ ماسٹر، گورنمنٹ بائی اسکول، سینتا رام پیٹھ، حیدر آباد۔
جناب میر سجاد حسین، موظف پرنپال، اسلامیہ بواخہ بائی اسکول، سکندر آباد۔

چیف اڈوبیز

ڈاکٹر ایش - کے - دیوان، ایجوکیشن اڈوبیز رویدا یا بھوان سوسائٹی، اڈوبیز راجستان

مترجمین

- جناب ابو طاہر محمد عبدالشکور، ایس اے، جی بی ایچ ایس، اولاد ملک پیٹھ، حیدر آباد
محترمہ نائیسہ تسمیہ، ایس اے، جی بی ایچ ایس، سیکنڈ لارس، گوکنڈہ، حیدر آباد
جناب سلیم معین الدین، ایس اے، جی بی ایچ ایس، مغل پورہ نمبر ۳، حیدر آباد
محترمہ سائزہ احمد، ایس اے، جی بی ایچ ایس، ہماپونگ کرمنہر - ۱، حیدر آباد
جناب محمد احمد علی، ایس اے، جی بی ایچ ایس، گوش محل، حیدر آباد
جناب سید عمران، ایس اے، گورنمنٹ بائی اسکول ایم بی محل، گداوال، ضلع محوب بگر
ذہن شی پی اینڈ لے آوٹ ذیزائننگ

ٹی محمد مصطفیٰ، حسیب کمپیوٹر میکھوکپور، مشیر آباد، حیدر آباد۔

عجمب الافتار، حفصہ گرفنکس، حیدر آباد۔

محمد ذکر الدین لیاقت، مت ایکیپیوٹر، حیدر آباد۔

پیش لفظ

ریاضی ہر بچے کی روزمرہ زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے۔ ہر بچے کو چاہیے کہ خواہ وہ اپنے والدین کی مدد کسی کھیت میں کر رہا ہو کہ کسی باور پر جانے میں یا اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل میں مصروف ہو، مختلف اقسام کے حسابی مسائل سے مستقل طور پر دو چار ہو ناپڑتا ہے۔ چنانچہ جب ایک بچہ اسکول آنا شروع کرتا ہے تو اعداد اور جگہ کے متعلق ہم اقسام کے ایسے تجربات اپنے ساتھ لے آتا ہے جو با اوقات ہم میں سے کسی کے بھی وہم و گمان سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں اور اس بات کی لفظی ہوتی ہے کہ بچہ ریاضی سے عدم واقفیت رکھتا ہے۔

بچوں کے اندر اکتساب کامادہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس بات یہ ہے کہ تمام بچے ریاضی سکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دنیا کے بارے میں معلوم حاصل کرنے کا ان کے اندر پایا جانے والا تجسس اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ان کی قابلیت کو استعمال کرنے کا بھر پور موقع فراہم کرتا ہے۔ بچوں کے اندر پائی جانے والے ریاضی کی مخفی صلاحیتیں جیسے زمرہ بندی، تقابل، جوڑ بنانا، تخمینہ کرنا، تجزیہ، نقشہ سازی، عام اصول بنانا وغیرہ اور اس کے ساتھ ساتھ مقدار اور جگہ کے متعلق ان کے تجربات کمہ جماعت کی تدریس میں معافون ثابت ہوتے ہیں اور اس اندھہ کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں کو بھر پور طریقے پر تدریس کے دوران استعمال میں لاٹیں۔

یہ بات اہمیت کی حامل ہے کہ جہاں ریاضی کا اکتساب انسانی تجربات پر ہوتا ہے لیکن اس کا مسلسل ارتقا ان پر منحصر نہیں ہوتا بلکہ اس کا انحصار منطق اور انسانی دماغ کی اختراقی صلاحیت پر ہوتا ہے۔ چنانچہ ریاضی کی تدریس کا مقصود ”کار آمد“ عددی صلاحیتوں کی ترویج سے کہیں اعلیٰ ہوتا ہے اور ریاضی کے اکتساب کا اصل مقصود حسابی سوچ پیدا کرنا اور خیالی و تجربی امور سے مسابقه کرنے کی صلاحیت کو فروغ دینا ہوتا ہے۔ ریاضی کے اکتساب کو محض اعداد اور جگہ کے تحلیل و اشکال سے مواز نہیں کرنا چاہیے جو کہ ریاضی کی معلومات کا حصہ ہے اور ان سب کا علم اپنے صورت بچوں کو دینا ضروری ہوتا ہے۔

تدریس ریاضی کے نذکورہ بالامنصوبے کو ریاستی درسیاتی خاکہ 2011 (SCF) میں بیان کیا گیا ہے اور اس کی وضاحت اس کے ریاضی کے پژوشن پیپر میں تفصیلی طور پر کی گئی ہے جس میں واضح طور پر ریاست میں ریاضی کی تدریس کے تعینی معیارات کا تعین کر دیا گیا۔ ان تمام دستاویزات کی اصل روح کو بروئے کار لانے کی نصابی کتب کے ذریعے سی کی جاتی ہے۔

نظریات کو موزوں و مناسب پس منظر میں پیش کیا جاتا ہے، اشکال کے مشاہدات کے ذریعے بھی ان تک رسائی حاصل کی جاتی ہے اور اپنے لفظوں میں بیان کرنے کو موقع فراہم کیا جاتا ہے۔ تعریفات اور غیر متعلق الفاظ کے استعمال سے کنارہ کشی اختیار کی گئی ہے۔ کسی مسئلے کو متعدد طریقے سے حل کرنے کے لیے بچوں کی حوصلہ افرائی کی گئی ہے۔ میکائی طریقے کے جماعتی اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ بچے الگوریتم کو سمجھ کر مسائل کو حل کریں۔ مسئلے پیش کرنا ریاضی کا ایک اہم حصہ ہے اور بچوں کو اس جانب مائل کیا گیا ہے کہ وہ ہمہ اقسام کے مسائل پیش کریں۔ انفرادی و گروہی مشاغل کے لیے جگہ فراہم کی گئی ہے۔ نظریے کی تعمیر کے ساتھ ساتھ نئے خیالات و سوچ کی حوصلہ افرائی کے لیے جیسے مشترکہ طور پر اکتساب کا موقع فراہم کرنے کے لیے تصاویر کو سوچ سمجھ کر استعمال کیا گیا ہے۔ بچے کی دل چسبی میں اضافے کے لیے کتاب کے ڈیزائن کو گلین بنایا گیا ہے۔

نصابی کتاب تیار کیمی کی محنت اور معیاری کام کو ریاستی کونسل برائے تعلیم، تحقیق و تربیت تسلیم کرتا ہے اور اس کی سائش کرتا ہے۔ اس کتاب کی تیاری میں ریاست کے کئی اساتذہ نے اپنا تعاون دیا ہے۔ ہم تمام ضلعی عہدیداران تعلیم منڈل، ایجوکیشن افسران اور ہمیڈ ماسٹرس کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس کو ممکن بنایا ہے۔ ہم ان تمام ادارہ جات اور تنظیموں کے بھی مشکور بیان جنہوں نے اس کتاب کو بنانے میں اپنا وقت دیا۔ اس کتاب کی تیاری کے سلسلے میں ہم دفتر کمشنر ڈائرکٹر اسکول ایجوکیشن کے تعاون پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہمارے کام کو بہتر بنانے کی مسلسل جہت میں ہم آپ سب کے تصریح و مشوروں کے طلب گار رہیں گے۔

اے ستینے نارسٹار یڈی

ڈائرکٹر، ریاستی کونسل برائے تعلیمی تحقیق و تربیت، حیدر آباد

ریاضی

جماعت چہارم

صفہ نمبر	ماہ تکمیل نصاب	عنوانات	سلسلہ نشان
1-7	جون	کئی اشیا۔ مختلف اشکال	1.
8-14	جون	مختلف نظارے۔ مختلف پہلو	2.
15-22	جولائی	چند اور اشکال	3.
23-37	جولائی	اعداد کی پہچان	4.
38-48	اگست	کتنا زیادہ۔ کتنا کم	5.
49-60	اگست	کتنی مرتبہ	6.
61-70	ستمبر	مساوی حصے اور گروپ	7.
71-79	ستمبر	اس کی لمبائی کتنی ہے؟	8.
80-90	اکتوبر	یہ کتنا وزن رکھتا ہے؟	9.
91-98	نومبر	ان بوتلوں کی گنجائش کیا ہے؟	10.
99-107	نومبر	ٹک ٹک چلتی گھڑی	11.
108-117	ڈسمبر	مساوی حصوں میں بانٹنا	12.
118-124	ڈسمبر	اسمارٹ ٹیبلس	13.
125-129	جنوری	سرحدیں اور حدود	14.
130-133	جنوری	نصف۔ جو ایک جیسے نظر آتے ہیں	15.
134-140	فبروری	نمونے	16.
141-146	فبروری	ریاضی ہمارے گرد و پیش	17.
مارچ			اعداد

قومی ترانہ

جن گن من ادھی نایک جیا ہے
بھارت بھاگیہ ودھاتا
پنجاب، سندھ، گجرات، مراٹھا، ڈراوڈ، انگل، ونگا
وندھپیا، ہماچل، یمنا، گنگا، اُچ چھل جل دھی ترزاگا
تو اشیخ نامے جاگے، تو اشیخ آشش ماگے
گاہے ہے تو جیا کا تھا
جن گن منگل دایک جیا ہے
بھارت بھاگیہ ودھاتا
جیا ہے، جیا ہے، جیا ہے
جیا جیا جیا جیا جیا ہے
— رابندرناٹھ ٹیگور

عہد

ہندوستان میراوطن ہے۔ تمام ہندوستانی میرے بھائی اور بہن ہیں۔ مجھے اپنے وطن
سے پیار ہے اور میں اس کے عظیم اور گوناگوں ورثے پر فخر کرتا ہوں / کرتی ہوں۔ میں ہمیشہ^c
اس ورثے کے قابل بننے کی کوشش کرتا رہوں گا / کرتی رہوں گی۔ اپنے والدین، استادوں
اور بزرگوں کی عزت کروں گا / کروں گی اور ہر ایک کے ساتھ خوش اخلاقی کا برداشت کروں
گا / کروں گی۔ میں جانوروں کے تینیں رحم دلی کا برداشت کروں گا / رکھوں گی۔ میں اپنے وطن اور
ہم وطنوں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے کا عہد کرتا ہوں / کرتی ہوں۔

کئی اشیا مختلف اشکال

ٹپچر آن چہارم جماعت میں طلباء کو مختلف اشکال والی اشیا دکھارے ہے ہیں۔



اشکال کے مطابق دی گئی اشیا کی درجہ بندی کیجیے اور اپنے اطراف نظر آنے والی اشیا سے اس فہرست میں اضافہ کیجیے۔

ڈھول نما	جو کر کی ٹوپی نما	پانسہ نما	اینٹ نما	گیند نما

سوچیے اور تبادلہ خیال کیجیے۔

- 1۔ کیا ہم ان کو لڑھکاتے ہیں یا گھسیتے ہیں؟
- (a) کیا گیند لڑھکتی ہے؟ کیا تمام گیند نما اشیا لڑھکتی ہیں؟
- (b) ایک سوت کیس کو ہم ایک مقام سے دوسرے مقام تک کتنے طریقوں سے منتقل کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اس کو ایک مقام سے دوسرے مقام منتقل کرنے کے لیے لڑھکاتے ہیں؟
- (c) کیا ڈھول نما شکل والی اشیا کو لڑھکایا جاسکتا ہے؟ کیا ان کو گھسیٹا بھی جا سکتا ہے؟
- (d) چند اشیا کو صرف لڑھکایا جاسکتا ہے اور چند اشیا کو صرف گھسیٹا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ چند اشیا کو لڑھکایا بھی جا سکتا ہے اور گھسیٹا بھی۔ کیوں؟




تبسم اور اس کی 5 سہیلیاں ایک کھیل کھیل رہی ہیں۔ انہوں نے اسری کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر جتنی دیر چاہے اتنی دیر تک تالی بجانے کے لیے کہا۔ اس دورانِ دوسری تمام لڑکیاں ایک میز کے اطرافِ دوڑ لگاتی ہیں۔ جس لمحے اسری تالی بجاناروک دے تب جو جہاں ہوں وہیں رک جاتی ہیں اور جو میز کے کونے پر موجود نہ ہوں وہ کھیل سے باہر ہو جاتی ہیں۔

میز کے کنارے پر کون کھڑی ہیں؟ اور اس کھیل سے کون باہر ہیں؟ کیوں؟

آئیے اب ہم مختلف شکل کی اشیا کے کونے اور کناروں کی گنتی کریں گے۔

1۔ اینٹ نما شکل کی اشیا کے کتنے کنارے ہوتے ہیں؟ اور کتنے کونے ہوتے ہیں؟



کناروں کی تعداد _____



کناروں کی تعداد _____

کونوں کی تعداد _____

کونوں کی تعداد _____

ٹپچر نوٹ : اس مشغله سے قبل بچوں کو مختلف شکل والی اشیا کا تعارف کروائیں۔ کناروں اور کونوں کی شناخت کروائیں اور ان کی گنتی کرنے میں مدد کریں۔

2۔ پانسہ نما اشیا کے کتنے ”کنارے“ ہوتے ہیں؟ اور ان کے کتنے ”کونے“ ہوتے ہیں؟




_____ کناروں کی تعداد

_____ کناروں کی تعداد

_____ کونوں کی تعداد

_____ کونوں کی تعداد

3۔ جو کرکی ٹوپی نما اشیا کے کتنے کنارے ہوتے ہیں؟ اور ان کے کتنے کونے ہوتے ہیں؟




_____ کناروں کی تعداد

_____ کناروں کی تعداد

_____ کونوں کی تعداد

_____ کونوں کی تعداد

4۔ ڈھول نما اشیا کے کتنے کنارے ہیں؟ کیا ان کے کونے بھی ہوتے ہیں؟



_____ کناروں کی تعداد



_____ کناروں کی تعداد

_____ کونوں کی تعداد

_____ کونوں کی تعداد


5۔ کیا گیند نما اشیا کے کنارے اور کونے ہوتے ہیں؟

سوچیے اور تبادلہ خیال کیجیے۔

آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ گیند اور ڈھول نما اشیا لڑھتے ہیں؟

مختلف اقسام کے بکے


ایک صابن کا خالی بکسہ لیجیے۔ اس کو ایک کاغذ پر رکھ کر اس کے تمام پہلوؤں کا خاک ٹھیک جیسا کہ یہاں دکھایا گیا ہے۔



(a) صابن کے بکے کے کتنے پہلو ہوتے ہیں؟


(b) کیا آپ کو تمام پہلو ایک جیسے نظر آتے ہیں؟

(c) اس صابن کے بکسے کو احتیاط سے اس کے کناروں سے کھولیے۔ کیا یہ ذیل میں دی گئی شکل کے مانند نظر آتا ہے؟



اس کو صابن کے بکسے کا جال کہا جاتا ہے۔

(d) اس ٹوٹھ پیسٹ بکسے کو کھولنے پر ذیل کے کس جال کی طرح حاصل ہوگا؟



یہ کبجھی

1۔ مختلف اشیا جیسے ٹوٹھ پیسٹ کا بکسہ، میٹھائی کا ڈبہ، جوتوں کا ڈبہ وغیرہ اکٹھا کر کے انھیں کھولیے۔ اپنی نوٹ بک میں ان کے جال کا خاکہ بنائیے۔


آئیے پانے سے کھلیں!



ایک پانے لیجیے، اس کو ایک کاغذ پر رکھ کر اس کے تمام پہلوؤں کا خاکہ بنائیے۔


(a) ایک پانے کے کتنے پہلو ہوتے ہیں؟ _____

(b) کیا پانے کے تمام پہلو ایک جیسے نظر آتے ہیں؟ _____



چند کھلے بکے

ذیل میں دیئے گئے کس جال کے استعمال سے تصویر میں موجود بکے کو تیار کیا جاسکتا ہے؟




مختلف نظارے مختلف پہلو


نازیہ، شاکستہ اور حاجرہ تینوں نے ایک ہی بس کی تصاویر بنائی ہیں، لیکن ہر تصویر مختلف ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ بتائیے۔



نازیہ



شاکستہ




ہاجرہ

- (ا) کس کی تصویر بس کے سامنے کا منظر پیش کرتی ہے؟
- (ب) کس کی تصویر بس کا اوپری منظر پیش کرتی ہے؟
- (ج) کس کی تصویر جانی پہلو کا منظر پیش کرتی ہے؟

کوشش کیجیے

1۔ اپنے باور چیخانے میں جائیے اور مشاہدہ کیجیے کہ ذیل کی اشیاء اوپری جانب سے کیسی نظر آتی ہیں؟




کس شکل سانکی مشابہت ہے؟

ذیل میں چند اشیا کی تصاویر دی گئی ہیں۔ ایسی تصاویر جو اپری منظر کو ظاہر کر رہی ہیں ان کے آگے انگریزی حرف T لکھیے اور ایسی تصاویر جو جانبی منظر کو ظاہر کر رہی ہیں ان کے آگے انگریزی حرف S لکھیے



اس تصویر کو کہاں سے لیا گیا ہے؟

ذیل میں ایک مقام کی تین تصاویر دی گئی ہیں؟ کیا آپ نشان دہی کر سکتے ہیں کہ کوئی تصویر سامنے سے لی گئی؟ کوئی پیچھے سے اور کوئی تصویر جانی پہلو سے لی گئی ہے؟



طوطا اور بینا کا سفر



طوطا اور بینا اس کمرہ جماعت کے پنکھے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔


(1) کتنے بچے انہیں دیکھ سکتے ہیں؟

(2) ٹیچر کیا کر رہی ہیں؟

(3) ٹیچر کی میز پر کیا ہے؟

(4) کتنے بچوں نے میز پر اپنی کتابیں کھول رکھی ہیں؟

(5) کیا آپ ٹیچر کی کرسی پر کسی کتاب کی شکل بناسکتے ہیں؟



کوشش کیجیے

اوپر کی جانب سے آپ کی کمرہ جماعت کیسی نظر آئے گی؟ اس کی تصویر بنانے کی کوشش کیجیے۔

لٹوٹا اور بینا اسکول سے اڑ جاتے ہیں اور کھیتوں پر سے گزرتے ہوئے نیچے اس منظر کو دیکھتے ہیں۔



(a) اسکول کے اطراف کتنے مکانات ہیں؟ اپر سے وہ کس شکل کے نظر آتے ہیں؟

(b) کتنے درخت دکھائی دے رہے ہیں؟


(c) سڑک پر کتنی گاڑیاں ہیں؟ اندازہ لگائیے کہ وہ کونسی ہو سکتی ہیں؟

(d) تصویر میں آپ کو کتنے جانور نظر آ رہے ہیں؟

(e) تصویر میں آپ کو گول شکل کی کتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں؟

(f) تصویر میں آپ کو مزید دوسری کوئی چیزیں نظر آ رہی ہیں؟ اپنے دوستوں سے گفتگو کیجیے۔

اب طوطا اور مینا ایک اور مقام کے اوپر سے پرواز کر رہے ہیں۔ اندازہ لگائیے وہ کہاں اٹھ رہے ہیں؟



(a) تصویر میں ریل کی کتنی پڑیاں نظر آ رہی ہیں؟

(b) کتنی پڑیوں پر ریل گاڑیاں کھڑی ہیں؟

(c) پلیٹ فارم پر اور کون کون سی چیزیں نظر آ رہی ہیں؟ اپنے دوستوں سے تبادلہ خیال کیجیے۔

(d) جب ہم ریل کی پڑی پر کھڑے ہوتے ہیں تو پڑی اس طرح دکھائی دیتی ہے۔


پڑی ایک جانب چوڑی اور دوسری جانب تنگ کیوں نظر آتی ہے؟




(e) کیا آپ نے ایسا کہیں اور دیکھا ہے؟

ایک بکے پر دوسرا بکس


1۔ غور سے دیکھیے۔ یہاں پر چار بکے ہیں؟




2۔ ذیل میں دی گئی ہر ایک تصویر میں کتنے بکے ہیں؟




(b)




(a)




(d)




(c)



(f)



(e)



(g)

3

چند اور اشکال

اس کمرہ جماعت میں آپ کو کونے اشکال نظر آتے ہیں؟



نماشکل کی اشیا:



نماشکل کی اشیا:



نماشکل کی اشیا:



نماشکل کی اشیا:




یہ اشکال کیا کہلاتی ہیں؟



مستطیل

ہم نے صابن کے بکسے کے رخوں کے خاکے بنائے ہیں



وہ اس طرح دکھاتی دیتے ہیں

یہ دونوں اشکال مستطیل کہلاتے ہیں

(a) مستطیل کے کتنے اضلاع ہوتے ہیں؟


(b) مستطیل کے کتنے کونے ہوتے ہیں؟

(c) کیا مستطیل کے تمام اضلاع مساوی ہوتے ہیں؟

مربع



آپ نے پانے کے رخوں کے خاکے بھی بنائے ہیں۔



وہ اس طرح دکھاتی دیتے ہیں۔

یہ شکل مربع کہلاتی ہے۔

(a) اس کے کتنے اضلاع ہیں؟


(b) اس کے کتنے کونے ہیں؟

(c) کیا اس کے تمام اضلاع مساوی ہوتے ہیں؟

آپ کے کمرہ جماعت میں موجود ان اشیا کی نشان دہی کیجیے جو مرربع اور مستطیل نما ہیں۔ درج ذیل جدول میں ان کے نام درج کیجیے۔


مرربع نما	مستطیل نما

مثلثات:



ایک مربع کا غذ لیجیے۔

اسے شکل میں بتائے گئے طریقے کے مطابق موڑیے۔



اس شکل کو مثلث کہتے ہیں۔

1۔ مثلث کے کتنے اضلاع ہوتے ہیں؟ _____

2۔ مثلث کے کتنے کونے ہوتے ہیں؟ _____

1۔ آپ کے اطراف و اکناف میں کوئی اشیا مثلث نہماں؟ ان کو ذیل میں لکھیے۔


سوچیے اور تبادلہ خیال کیجیے۔

1۔ مندرجہ ذیل میں کوئی شکل مثلث ہے؟



دائرہ:

آمنہ اپنی چوڑی اور اپنی والدہ کی چوڑی سے مندرجہ ذیل اشکال بناتی ہے۔



یہ اشکال دائرے کہلاتے ہیں۔


(a) کیا ان اشکال کا کوئی کونیا ضلع ہے؟

آپ کے اطراف و اکناف میں کوئی اشیا دائرة نہماں؟ لکھیے۔

آئیے! مختلف اشکال کی مدد سے تصاویر بنائیں گے۔



ان اشکال کو استعمال کرتے ہوئے کم از کم 50 تصاویر بنائیے۔ ہر ایک تصویر کے لیے آپ کسی بھی شکل کو کسی بھی جسامت کی لے سکتے ہیں۔ جتنی مرتبہ چاہیں استعمال کر سکتے ہیں۔
آپ کے لیے چند مثالیں دی جا رہی ہیں۔




اگر زیل میں دی گئی جگہ کافی نہ ہو تو نوٹ پک استعمال کیجیے۔

SCERT TELANGANA

کیا آپ ان نقاط پر اشکال بناسکتے ہیں؟

مندرجہ ذیل نقاط کو جوڑتے ہوئے مختلف جسامت کے مرین، مستطیل اور مثلث بنائیے۔ دو اشکال آپ کے لیے بنائی گئی ہیں۔




ذیل میں دیتے گئے رنگوں سے رنگولی کو بھرئیے۔

نیلا۔ مستطیل

پیلا۔ مثلثات،

لال۔ دائرے،

ہر۔ مریع،




- a۔ رنگولی میں آپ کو کتنے مریع دکھائی دیتے ہیں؟
- b۔ آپ کتنے مستطیل دیکھ سکتے ہیں؟
- c۔ آپ کتنے دائرے دیکھ سکتے ہیں؟
- d۔ آپ کتنے مثلثات دیکھ سکتے ہیں؟

کوشش کیجیے

1۔ اوپر کی اشکال کو استعمال کرتے ہوئے اپنی پسند کی رنگولی بنائیے، اور مختلف اشکال کے لیے مختلف رنگوں کا استعمال کیجیے۔

ذیل کی اشیا کا خاکہ بنائیے۔
اس سے آپ کو کوئی شکل حاصل ہوتی ہے؟


- | | |
|---------|--------------------------------|
| _____ : | (a) دیا سلائی کی ڈبیہ |
| _____ : | (b) رنگ بال (گیند) |
| _____ : | (c) وسک کی گولی (Vicks Toffee) |
| _____ : | (d) درسی کتاب |
| _____ : | (e) ڈسٹر |



2- ذیل میں دی گئی تصویروں پر غور کیجیے۔ ان میں موجود اشکال کی لگتی کیجیے اور لکھیے۔

- | | |
|-------------------|-----|
| مربعوں کی تعداد : | (a) |
| مثلثات کی تعداد : | |
| مستطیل کی تعداد : | |


- | | |
|-------------------|--|
| مربعوں کی تعداد : | |
| مثلثات کی تعداد : | |
| مستطیل کی تعداد : | |
| دازروں کی تعداد : | |




3- چکنی مٹی کی مدد سے مختلف جسمات کے مریع، مستطیل، مثلث اور دائرے بنائیے۔

اعداد کی پہچان


ریشمائیں ٹھپرنے ایک موتیوں کی لڑی کو حمرہ جماعت میں باندھا ہے۔ کتنی موتیوں کے بعد موتیوں کا رنگ تبدیل ہو رہا ہے؟ ریشمائیں ٹھپر نے 10 موتیوں کے بعد ایک ڈوری کے ساتھ پر پی اور پھر 25 موتیوں کے بعد دوسری پر پی باندھی ہے۔ کیا آپ 50 موتیوں، 75 موتیوں اور 100 موتیوں کے بعد پر پی باندھ سکتے ہیں؟




اب موتیوں کی گنتی کرتے ہوئے لٹکائی گئی پر چیوں پر عدد لکھیے۔



اب آپ موتیوں کی لڑی پر ان اعداد 14, 27, 39, 45, 50 کی پر چیاں لگائیے۔



موتیوں کی لڑی پر چند مزید اعداد 92, 63, 54, 78, 85, 50 کی پر چیاں لگائیے۔




اب آپ 100 موتیوں کی لڑی بنائیں جیسا کہ اوپر دیا گیا ہے اور ان کے درمیان آپ کے پسندیدہ اعداد کی پر چیاں لگائیے۔




شینہ


ٹیچر! موتیوں کی لڑی بنانا آسان نہیں ہے
میں اس عددی خط کا استعمال کرتی ہوں




ٹیچر: آپ 37 کو اس خط پر کیسے ظاہر کریں گے?
شینہ: میں اس کو 30 اور 40 کے درمیان رکھوں گی اور 30 کے بجائے میں اس کو 40 کے قریب رکھوں گی۔



ٹیچر: یہ اس کے اظہار کا بہترین طریقہ ہے۔ اب مجھے ان اعداد کو حسب ذیل عددی خط پر بتائیے۔
شینہ: 75، 63، 59، 41، 82، 99۔ ان اعداد کو عددی خط پر ظاہر کرنے میں شینہ کی مدد کیجیے۔



اب آپ عددی خط پر لگائے گئے نشان پر مناسب اعداد کی شناخت کیجیے۔



وحیدہ کا خاندان

ذیل میں وحیدہ کے افراد خاندان کی عمریں دی گئی ہیں:



رшиدہ (62)



ابراہیم (65)



شabeenah (33)



حمید (38)



نسیم (40)



رفیق (42)



نسم (12)



فاطمہ (8)



سمیر (20)



وحیدہ (15)

- a - خاندان میں سب سے بڑی عمر کس کی ہے؟ اور کتنی؟ نام _____ عمر _____
- b - خاندان میں سب سے کم عمر کون ہے؟ نام _____ عمر _____
- c - ابراہیم کے بڑے فرزند (بیٹے) کون ہیں؟ نام _____ عمر _____

اوپر دئے گئے چار بچوں کے نام اور ان کی عمریں بڑی عمر سے چھوٹی عمر کی ترتیب میں لکھیے۔

غلے میں کتنی رقم ہے؟

6 بچوں نے ایک ماہ کے دوران اپنے غلوں میں حسب ذیل رقمات جمع کی ہیں۔



حبيب
₹ 65

عمر
₹ 27

ثار
₹ 56

اقبال
₹ 99

فاروق
₹ 11

امجد
₹ 80

a - ثار نے کتنی رقم جمع کی ہے؟ _____

b - 50 روپیوں سے زیادہ رقم کس نے جمع کی ہے؟ _____

c - سب سے زیادہ رقم کس نے جمع کی ہے؟ _____

d - اگر ثار کے پاس صرف دس روپے کے نوٹ اور ایک روپے کے سکے ہیں۔ تب ثار کے پاس دس روپے کے کتنے نوٹ اور کتنے ایک روپے کے سکے ہوں گے؟ _____

e - ہر پچے کو اپنے غلے میں کتنی رقم ڈالنی ہو گی کہ ان میں ہر ایک کی رقم 100 روپے ہو جائے؟ _____



$$65 + \underline{\hspace{2cm}} = 100$$

$$27 + \underline{\hspace{2cm}} = 100$$

$$99 + \underline{\hspace{2cm}} = 100$$


$$11 + \underline{\hspace{2cm}} = 100$$

$$80 + \underline{\hspace{2cm}} = 100$$

$$56 + \underline{\hspace{2cm}} = 100$$

کیا ہم عددی خط پر 100 سے زائد اعداد کو ظاہر کر سکتے ہیں؟

شمینہ نے اس سے قبل 100 تک کے اعداد کو عددی خط پر ظاہر کیا تھا۔ آج اس نے ایک دوسرا عددی خط بنایا ہے۔




اس عددی خط پر 5 کہاں واقع ہوگا؟


یہ '0' اور 100 کے بھیک درمیان میں واقع ہوگا۔ عدد 120 کہاں واقع ہوگا؟ یہ 100 اور 200 کے درمیان ہوگا۔ 200 کے مقابلے یہ عدد 100 سے قریب تر واقع ہوگا۔

عدد 270 کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ عدد 200 اور 300 کے درمیان ہوگا اور 200 کے مقابلے 300 سے قریب تر ہوگا۔


کیا آپ بتاسکتے ہیں کہ اعداد 0, 390, 410, 560, 750, 410, 390 عددی خط پر کہاں واقع ہوں گے؟



ذیل میں دیئے گئے عددی خط پر اعداد 90, 180, 240, 360, 550, 820, 910 کہاں واقع ہوں گے، بتائیے۔



ثانیہ اپنی نوٹ بک میں 100 کے بعد والے اعداد لکھ رہی ہے۔



آفرین: آپ کو تمام اعداد کے نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا یاد رکھیے کہ 101 سے ایک زیادہ ہے۔ اس کو ایک سو ایک پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح 105 سے پانچ زیادہ ہے۔ اس کو ایک سو پانچ پڑھا جاتا ہے اور 127 سے 27 زیادہ ہے اور اس کو ایک سو سی ایک پڑھا جاتا ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔

اب دیئے گئے اعداد کے نام الفاظ میں لکھیے۔

_____ :	137
_____ :	146
_____ :	151
_____ :	168
_____ :	179
_____ :	185
_____ :	198

1۔ حسب ذیل اعداد کے نام الفاظ میں لکھیے۔

دوسو سینتالیس : 247 (a)

_____ : 499 (b)

_____ : 391 (c)

_____ : 565 (d)

_____ : 444 (e)

_____ : 288 (f)

_____ : 507 (g)

_____ : 307 (h)


_____ : 790 (i)

_____ : 972 (j)



2۔ ترتیب کا مشاہدہ کرتے ہوئے خانہ پر کچھیں۔

100	125	150	_____	_____	_____	_____	_____	_____
200	210	_____	_____	_____	260	_____	_____	290
300	320	_____	_____	_____	420	_____	_____	_____
400	450	_____	_____	_____	700	_____	_____	_____
100	200	_____	_____	_____	700	_____	_____	1000


خانوں میں موزوں اعداد لکھیے، آپ کے لیے ایک مثال دی گئی ہے۔



462



ٹپچر نے طلباء کو عدد 399 کی توسعی شکل میں لکھنے کو کہا۔ سبھ، ماریا اور عامر مختلف طریقوں سے لکھتے ہیں۔



$$\begin{aligned}
 399 &= 300 + 90 + 9 \\
 &= 9 \text{ کائنٹاں} + 3 \text{ سینکڑے} + 9 \text{ دہائیاں} \\
 &3 \times 100 + 9 \times 10 + 9 \times 1
 \end{aligned}$$

یہ پہچانے۔

1۔ ذیل میں دیئے گئے اعداد کو تینوں طریقوں سے پھیلائیے۔


$$\begin{aligned}
 (a) \quad 862 &= \underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}} \\
 &\quad + \underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}} \\
 &\quad + \underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (b) \quad 602 &= \underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}} \\
 &\quad + \underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}} \\
 &\quad + \underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}}
 \end{aligned}$$

2۔ خط کشیدہ ہندسوں کی مقامی قیمت پر دائرہ بنائیے۔

- | | |
|------------------|------------|
| (a) <u>5</u> 7 1 | 5, 500, 50 |
| (b) 1 4 <u>8</u> | 800, 80, 8 |
| (c) 4 <u>7</u> 1 | 70, 700, 7 |

شمیم اور حیم 1 تا 19 اعداد کے کارڈ سے حصیل رہے ہیں۔



کیا آپ ان ہندسوں سے اعداد بناسکتے ہیں؟

- (a) 4, 5 : _____
- (b) 7, 6 : _____
- (c) 1, 2 : _____
- (d) 9, 3 : _____



شمیم : اب ہم تین کارڈوں کا استعمال کرتے ہیں۔
میں نے تین ہندسے 7، 2 اور 3 سے تین اعداد بنائے ہیں۔ 372، 723، 237۔

حیم : میں اور تین اعداد بناسکتا ہوں۔


وہ اعداد کون سے ہیں؟

کیا آپ ان ہندسوں کو استعمال کرتے ہوئے اعداد بنائتے ہیں۔

(a) 4, 5, 6 : _____

(b) 7, 1, 5 : _____

(c) 9, 2, 8 : _____



ٹسٹ کرکٹ کے بہترین گیند باز:

سال 2012 تک ٹسٹ کرکٹ میں زیادہ وکٹ لینے والے گیند باز کے نام کو ذیل کے جدول میں دیے گئے ہیں۔

ملک	وکٹ	گیند باز کا نام
ہندوستان	619	انیل کمبلے
ہندوستان	434	کپلڈ یو
سری لنکا	800	مرلی تھرن
آسٹریلیا	708	شین وارن
نیوزی لینڈ	431	رچرڈ ہیڈلی

(a) کس گیند باز نے سب سے زیادہ وکٹ لیے؟ وہ کس ملک سے تعلق رکھتا ہے؟

(b) 600 سے زائد وکٹ لینے والے گیند باز کتنے ہیں؟

(c) کم وکٹ سے زیادہ وکٹ لینے والے گیند باز کے نام ترتیب میں لکھیے:

(d) حسب ذیل گیند بازوں کے 1000 وکٹ سے کتنے وکٹ کم ہیں؟

$$800 + \underline{\hspace{2cm}} = 1000 \quad \text{مرلی تھرن}$$

$$708 + \underline{\hspace{2cm}} = 1000 \quad \text{شین وارن}$$

$$619 + \underline{\hspace{2cm}} = 1000 \quad \text{انیل کمبلے}$$

- 1۔ ایک 1000 میں کتنے 100 ہوتے ہیں؟
 2۔ ایک 1000 میں کتنے 200 ہوتے ہیں؟
 3۔ ایک 1000 میں کتنے 500 ہوتے ہیں؟

ترتیب کا مشاہدہ کرتے ہوئے خانہ پری کیجیے۔


1.


1000	1500					4000	
------	------	--	--	--	--	------	--
2.

2000	3000					8000	
------	------	--	--	--	--	------	--
3.

2000	4000						
------	------	--	--	--	--	--	--

دیئے گئے بکسون میں موزوں عدد لکھے۔






مشق

1۔ سال 2012 تک ایک روزہ کرکٹ کی ایک انگریز میں زیادہ اسکور کرنے والے بلے باز کے نام ذیل میں دیجئے گئے ہیں۔

بلے باز کا نام	رن	ملک کا نام
سعید انور	194	پاکستان
سچن تند ولگر	200	ہندوستان
وریندر سہوگ	219	ہندوستان
ایم ایس دھونی	183	ہندوستان
ویوین در چڑوڑ	189	ویسٹ انڈیز

- (a) کس بلے باز نے ایک روزہ کر کٹ کی ایک انگڑی میں سب سے زیادہ اسکو رکیا ہے؟ اور اس کا تعلق کس ملک سے ہے؟
- (b) کن بلے باز نے 100 اور 200 کے درمیان رن بنائے؟
- (c) کس بلے باز نے دگنی (ڈبل) سپری بنائی؟ ($\text{سپری} = 100 \text{ رن}$)
- (d) زیادہ رن بنانے والے بلے باز سے شروع کرتے ہوئے کم رن بنانے والے بلے بازوں کے نام ترتیب میں لکھیے۔
ذیل کے جدول میں چند جانوروں کا او سط وزن دیا گیا ہے۔



نام	وزن
گھوڑا	500 کلوگرام
بکری	30 کلوگرام
دنہبہ	45 کلوگرام
خنزیر	120 کلوگرام
کتا	15 کلوگرام
بھیڑیا	80 کلوگرام
ریچچ	350 کلوگرام

- a۔ کونسا جانور سب سے وزنی ہے؟
- b۔ کونسے جانور 100 کلوگرام سے زیادہ وزن رکھتے ہیں؟
- c۔ سب سے کم وزن سے لے کر سب سے وزنی تک جانوروں کے نام ترتیب میں لکھیے۔
لکھنی بکریوں کا وزن خنزیر کے وزن کے مساوی ہوگا؟
- d۔ کتنے کتوں کا وزن ایک دنبے کے وزن کے مساوی ہوگا؟
- e۔ میں ایک دو ہندسی عدد ہوں۔ اکائی کے مقام پر 6 اور دہائی کے مقام پر 1 ہے۔ میں کون ہوں؟
- 3۔ میں عدد 30 اور 40 کے درمیان رہتا ہوں۔ میرے اکائی اور دہائی کے مقام پر ایک ہی ہندسہ ہے۔ میں کون ہوں؟
- 4۔ ایسے تمام دو ہندسی اعداد لکھیے جن کے دہائی کا ہندسہ اکائی کے ہندسے کا دو گناہو۔
- 5۔

- 6۔ وہ تمام دو ہندسی اعداد لکھیے جن کے اکائی اور دہائی کے ہند سے یکساں ہوں۔
- 7۔ میں ایک تین ہندسی عدد ہوں۔ میرے سینکڑے کے مقام پر ہندسہ 6 ہے۔ دہائی کے مقام پر ہندسہ 0 ہے اور میرے اکائی کے مقام پر ہندسہ 9 ہے۔ میں کون ہوں؟
- 8۔ وہ تمام تین ہندسی اعداد لکھیے جن کے سینکڑے کے مقام کا ہندسہ اکائی کے مقام کا ہندسہ کا تین گناہ ہو اور دہائی کے مقام کا ہندسہ 1 ہو۔
- 9۔ 1500 اور 600 کے درمیان واقع تمام تین ہندسی اعداد لکھیے جن کے اکائی اور دہائی کے ہند سے یکساں ہوں۔
- 10۔ گوہر کے پاس 1 ہزار اور 2 دس روپے کنوٹ ہیں۔ اس کے پاس کتنی رقم ہے؟
- 11۔ ذیل کے اعداد کو تو سیکھ لکھیے۔

$$(a) \quad 347 = \underline{\hspace{1cm}} + \underline{\hspace{1cm}} + \underline{\hspace{1cm}}$$

$$\underline{\hspace{1cm}} + \underline{\hspace{1cm}} + \underline{\hspace{1cm}}$$

$$\underline{\hspace{1cm}} + \underline{\hspace{1cm}} + \underline{\hspace{1cm}}$$

$$(b) \quad 804 = \underline{\hspace{1cm}} + \underline{\hspace{1cm}} + \underline{\hspace{1cm}}$$

$$\underline{\hspace{1cm}} + \underline{\hspace{1cm}} + \underline{\hspace{1cm}}$$

$$\underline{\hspace{1cm}} + \underline{\hspace{1cm}} + \underline{\hspace{1cm}}$$

$$(c) \quad 532 = \underline{\hspace{1cm}} + \underline{\hspace{1cm}} + \underline{\hspace{1cm}}$$

$$\underline{\hspace{1cm}} + \underline{\hspace{1cm}} + \underline{\hspace{1cm}}$$

$$\underline{\hspace{1cm}} + \underline{\hspace{1cm}} + \underline{\hspace{1cm}}$$

12۔ خالی جگہوں کو پرستیجیے۔

$$= چار سو چھپن \quad (a)$$

$$\underline{\hspace{1cm}} = 631 \quad (b)$$

$$= آٹھ سو چھتھتر \quad (c)$$

$$= نو سو اڑ سٹھ \quad (d)$$


13۔ دیئے گئے ہندسوں سے بننے والے بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے تین ہندسی اعداد لکھنے۔

$$(a) \quad 7, 6, 3$$

$$(b) \quad 3, 4, 2, 9$$


کتنا زیادہ - کتنا کم؟

ریاضی کی طبقے آج کمرہ جماعت میں پھر ایک بار موتیوں کی لڑی کو لکایا اور تختہ سیاہ پر سوال لکھا اور انہوں نے پھر کو اس سوال کا جواب موتیوں کی مدد سے معلوم کرنے کے لیے کہا۔




طیپھر کے دینے ہوئے سوال کو پچھے مختلف طریقوں سے موتیوں کی مدد سے حل کرتے ہیں۔

شاہدہ نے اس طرح کیا



$$12+28 = 12 + 8 + 10 + 10 = 40 : \text{اس نے لکھا}$$


زینت نے اس طرح کیا۔



اس نے لکھا:

$$12 + 28 = 12 + 10 + 10 + 8 = 40$$


احمد نے اس طرح کیا:




اس نے لکھا:

$$12 + 28 = 12 + 20 + 8 = 40$$


(a) $34 + 16 =$ اب آپ موتیوں کی مدد سے ذیل کے سوالات کو اپنے طریقوں سے حل کرتے ہوئے جواب لکھیے۔




(b) $25 + 23 =$




(c) $41 + 30 =$



(d) $53 + 37 =$




ٹپھر نے تختہ سیاہ پر یہ سوال لکھا۔




بچوں نے اس سوال کو مختلف طریقوں سے متینوں کی لڑی پر حل کیا۔

شاہدہ نے اس طرح کیا:






$$37 - 19 = 37 - 10 - 7 - 2 = 18$$



$$37 - 19 = 37 - 20 + 1 = 18$$

اب آپ متینوں کی لڑی سے ذیل کے سوالات کو مختلف طریقوں سے حل کرتے ہوئے جواب لکھیے۔




اس کے بعد پہلوں سے ان سوالات کو اپنی نوٹ بک میں حل کرنے کے لیے کہتی ہیں۔

(a) $49 + 17$

(b) $83 - 24$

زینت نے اس طرح کیا


$49 + 17$



$$49 + 17 = 49 + 20 - 3 = 66$$

شاہدہ نے اس طرح کیا


$49 + 17$



$$49 + 17 = 49 + 10 + 1 + 6 = 66$$

زینت نے اس طرح کیا


$83 - 24$



$$83 - 24 = 83 - 10 - 10 - 3 - 1 = 59$$

شاہدہ نے اس طرح کیا

$83 - 24$



$$83 - 20 - 4 = 59$$

کہیے
یہ

1۔ عددی خط کی مدد سے مندرجہ ذیل کو حل کیجیے۔

(a) $46 + 37 = ?$

(b) $63 - 35 = ?$

(c) $77 - 29 = ?$

(d) $42 + 38 = ?$



لندن اولمپکس 2012 میں میڈل جیتنے والے ممالک کا موقف

ذیل میں لندن اولمپکس میں میڈل حاصل کرنے والے ممالک کا نامکمل جدول دیا گیا ہے۔ کیا آپ اس کو مکمل کر سکتے ہیں۔

ملک کا نام	سونا	چاندی	کانسہ	جملہ
امریکہ	46	29	29	
چین	38	27	23	
برطانیہ	29	17	65	
روس	24		32	82
کوریا	13	8		28
فرانس		11	12	34
آسٹریلیا	7	16	12	
اٹلی	8		11	28
ہنگری		4	5	17
جاپان	7	14		38

- (a) امریکہ نے اٹلی سے کتنے میڈل زیادہ حاصل کیے؟
- (b) کوریا نے روس سے کتنے میڈل کم حاصل کیے؟
- (c) چین کو مزید کتنے میڈل حاصل کرنے پڑتے، جس سے ان کے میڈل کی کل تعداد امریکہ کے حاصل کردہ میڈل کی تعداد کے مساوی ہو جائے؟
- (d) جدول کو مد نظر رکھتے ہوئے جمع اور تفریق کے مزید سوالات تیار کیجیے۔

کوشش کیجیے

ذیل کی خالی جگہوں کو پر کیجیے اور اس طرح کے مزید سوالات تیار کیجیے۔ جیسا کہ مثال میں دیا گیا ہے۔

مثال	$27 + 52 = 79$	$(a) \quad 73 - 41 = 32$
	$79 - 52 = 27$	$32 + \underline{\quad} = 73$
(b)	$36 + 56 = 92$	$(c) \quad 91 - 37 = 54$
	$92 - \underline{\quad} = 56$	$\underline{\quad} + 37 = 91$

بالکل درست جواب کی ضرورت نہیں صرف اندازہ لگائے!

شکیل اور نصرت میلہ دیکھنے گئے۔ آئیے! دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔



اعداد کی جمع اس وقت آسان ہو جاتی ہے جب وہ
دہائی کی اساس پر ہو۔ میں نے ₹68 نمذہ اپر خرچ
کیے۔ 68 عدد 70 کے قریب ہے نسبت عدد
60 کے، اس لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے
تقریباً ₹70 خرچ کیے۔ میں نے تقریباً ₹100
کھیلوں پر خرچ کیے۔ اس طرح میں نے تقریباً
₹170 میلے میں خرچ کیے۔

شکیل نے ₹68 نمذہ اپر خرچ کیے اور ₹99
کھیلوں پر خرچ کیے۔ تب شکیل نے میلے میں
تقریباً کتنے روپے خرچ کیے۔

نصرت کے پاس ₹98 تھے، جس میں سے اس
نے ₹42 خرچ کیے۔ نصرت کے پاس کتنے
روپے باقی رہیں گے؟

جب میں میلہ دیکھنے جا رہی تھی، میرے پاس
تقریباً ₹100 تھے جس میں سے میں نے
تقریباً ₹40 خرچ کیے۔ اس لیے میرے
پاس تقریباً ₹60 باقی رہیں گے۔



یہ کہیجے

کیا آپ مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات کا اندازہ کر سکتے ہیں؟


- (a) افشاں نے ₹91 پھگکوں پر ₹82 ترکاریوں پر خرچ کیے۔ بتائیے کہ اس نے تقریباً کتنے روپے خرچ کیے؟
- (b) طیب کے پاس ₹78 تھے۔ اس نے بازار میں ₹29 خرچ کیے۔ بتائیے کہ اس کے پاس تقریباً کتنے روپے باقی رہیں گے؟
- (c) نور کی آمدی پیر کے دن ₹89 اور منگل کے دن ₹57 ہوئی۔ ان دونوں میں نور نے تقریباً کتنے روپے کمائے؟
- (d) ایک باغ میں 87 درخت ہیں۔ طوفان کی وجہ سے 28 درخت گرجاتے ہیں۔ تب بتائیے کہ اس باغ میں تقریباً کتنے درخت موجود ہوں گے؟

- (e) اعداد 158 اور 33 کا مجموعہ تقریباً کیا ہوگا؟
- (f) 91 اور 33 کا فرق تقریباً کیا ہوگا؟
- (g) راجد یوالی کے لیے 84 موم بتیاں خریدتا ہے۔ وہ دیوالی سے ایک دن پہلے 28 موم بتیاں استعمال کرتا ہے۔ تب دیوالی کے دن کے لیے اس کے پاس تقریباً کتنی موم بتیاں باقی رہیں گی؟


بڑے اعداد کی جمع اور تفریق


ٹپھر نے آج بڑے اعداد کی جمع اور تفریق کے لیے تختہ سیاہ پر سوال درج کیا۔

کیا ان کا مجموعہ 300 سے زیادہ ہو گا یا 300 سے کم؟



چھوٹ نے اس سوال کو اپنی نوٹ بک میں حل کیا۔





سب سے پہلے میں نے اعداد کو ایک دوسرے کے نیچے اس طرح لکھا کہ اکائی، دہائی اور سینکڑے کے ہندسے ایک دوسرے کے ٹھیک نیچے رہیں۔ اس کے بعد اکائی کے مقام کے ہندسوں کو جمع کیا اور دہائی کے ہندسوں کو جمع کر کے ان اکائی کے مجموعے سے حاصل عدد کو جمع کیا اور آخر میں سینکڑے کے ہندسوں کو جمع کیا۔




اجد

ٹپچر : افشاں اور احمد آپ دونوں نے جمع کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے اور آپ دونوں کے جوابات صحیح ہیں۔
آپ اپنے دوستوں سے دونوں طریقوں کے فرق پر تبادلہ خیال کیجیے۔

دوسرے دن ٹپچر نے تفریق سیکھانے کا ارادہ کیا اور تختہ سیاہ پر یہ سوال لکھا۔

کیا ان اعداد کا فرق 100
سے زیادہ ہو گا یا کم


$$279 - 146 = ?$$



چوں کہ عدد 146 کو 279 سے تفریق کرنا ہے، اس لیے میں نے 146 کو 279 کے ٹھیک نیچے لکھا۔ اور پھر میں نے ان کو سینکڑوں دہائیوں اور اکائیوں میں الگ کیا۔ تفریق کے عمل کو میں نے اکائی کے مقام سے شروع کیا یعنی 6 کو 9 میں سے، 40 کو 70 اور 100 کو 200 سے تفریق کیا۔



ٹپچر نے اعداد کو تبدیل کیا اور پھر وہ سے کہا کہ اس کو حل کریں۔



چوں کہ 149 کو 276 میں سے تفریق کرنا ہے، اس لیے میں نے 149 کو 276 کے بالکل بھیک نیچے اس طرح لکھا کہ ان اعداد کے اکائی، دہائی اور سیکڑے کے ہندسے ایک دوسرے کے نیچے رہیں۔ میں نے تفریق کا عمل اکائی سے شروع کیا۔

چوں کہ 16 کا تینوں کو 16 کا تینوں سے تفریق نہیں کیا جاسکتا، اس لیے میں نے 7 دہائیوں سے ایک دہائی کو بدل لیا اور اب میرے پاس 11 کا تیناں ہیں، جن سے 16 کا تینوں کو تفریق کرنے پر 7 اکائیاں حاصل ہوتیں۔ اس کے بعد 6 دہائیوں سے 4 دہائیوں کو تفریق کیا جس سے 2 دہائیاں حاصل ہوئے۔ آخر میں 1، سیکڑے کو 2 سیکڑوں سے تفریق کرنے پر 1، سیکڑا حاصل ہوا۔

یہ صحیح ہے۔

- 1۔ انجم کے پرس میں ₹ 73 تھے۔ اس کے دوست نے ₹ 28 والیس کیے جو اس نے قرض لیے تھے۔ اب انجم کے پاس کل کتنی رقم ہے؟
- 2۔ اکبر کی ایک دن کی آمدنی ₹ 92 ہے اور وہ ₹ 67 غذا اور گھر کی ضروریات پر خرچ کرتا ہے۔ تب بتلائیے کہ وہ کتنی رقم بجا کر گھر لے جاتا ہے؟
- 3۔ ایک سال میں 234 ٹالی فلمیں بنائی گئیں۔ اسی سال 67 تلگو فلمیں ٹالی فلموں سے زائد بنائی گئیں۔ بتلائیے کہ اس سال کتنی تلگو فلمیں بنائی گئی ہیں؟
- 4۔ ایک میاچ میں تنڈولگر نے 184 روپے بنائے اور اسی میاچ میں یوراج سنگھ نے تنڈولگر سے 48 روپے کم بنائے۔ بتلائیے کہ یوراج سنگھ نے اس میاچ میں کتنے روپے بنائے؟
- 5۔ گودام میں 545 کلو چاول ہے۔ اس میں سے 228 کلو چاول مختلف دکانوں کو روانہ کیے گئے۔ بتلائیے کہ گودام میں اب کتنے کلو چاول باقی رہیں گے؟
- 6۔ زینت اور اس کی اگری بازار سے ایک ساڑی ₹ 1512 اور ایک شرٹ و شلوار ₹ 309 میں خریدے۔ بتلائیے کہ انہوں نے کپڑوں پر کتنی رقم خرچ کی؟
- 7۔ حمیرہ کے پرس میں ₹ 149 ہیں۔ دکان دار کو ₹ 268 ادا کرنے ہیں۔ بتلائیے کہ حمیرہ کو مزید کتنی رقم کی ضرورت ہو گی تاکہ وہ دکان دار کو مکمل رقم ادا کر سکے؟

آئیے دوبارہ اندازہ لگائیں!

عشریہ کے پرس میں ₹ 384 میں۔ وہ مارکٹ میں ₹ 106 خرچ کرتی ہے۔ بتائیے کہ اس کے پاس تقریباً کتنی رقم بچی ہے؟

جیسا کہ آپ جانتے ہیں، دبائی کی اساس پر جمع کرنا آسان ہوتا ہے، اسی طرح سینکڑوں کی اساس پر بھی جمع آسان ہوتی ہے۔ عرضیہ بازار کو تقریباً ₹ 400 لے گئی اور تقریباً ₹ 100 خرچ کی۔ اس لیے اس کے پاس تقریباً ₹ 300 بچے ہیں۔

اب آپ اندازہ لگاتے ہوئے ذیل کے سوالات کے قریب ترین جواب پر دائزہ بنائیے۔

(a) اطہر کے پاس ₹ 618 میں جب کہ اس کے بھائی انصار کے پاس ₹ 321 ہیں۔ ان دونوں کے پاس تقریباً کتنی رقم ہے؟
 1000 900 800

(b) لیاقت نے ایک دن میں ₹ 268 کمائے اور ₹ 99 نہاد پر خرچ کیے تب لیاقت نے ایک دن میں تقریباً کتنے روپیوں کی بچت کی؟
 300 200 100

(c) عدد 904، عدد 418 سے تقریباً کتنا زیادہ ہے؟
 600 500 400

(d) ایک گودام میں 467 کلوگرام گیوں اور 376 کلوگرام چاول رکھے ہوئے ہیں۔ گودام میں رکھے ہوئے انаж کی مقدار تقریباً کیا ہوگی؟
 1000 900 800

(e) 1000 اور 218 کا مجموعہ تقریباً کیا ہوگا؟
 1000 900 800

(f) عدد 386 سے تقریباً کتنا بڑا ہے؟
 150 100 50

کوشش کیجیے

$$29 + 42 = 42 + 29, \text{ کیا } 9 + 8 = 8 + 9, \text{ کیا }$$

کوئی دو اعداد لیتے ہوئے اور بتائے ہوئے اصول کی جانچ کیجیے کہ کیا صحیح ہے؟

1۔ خالی جگہوں کو پر کیجیے۔

(a) $12 + 9 = \underline{\quad} + 12$

(b) $17 + 14 = 14 + \underline{\quad}$


(c) $40 + 50 = \underline{\quad} + 40$

(d) $39 + 67 = \underline{\quad} + 39$


(e) $97 + 101 = 101 + \underline{\quad}$

(f) $125 + \underline{\quad} = 143 + 125$

(g) $\underline{\quad} + 315 = 315 + 270$

- 1- 36 لوگ بس میں سفر کر رہے تھے۔ پہلے اسٹاپ پر 8 لوگ بس سے اتر گئے اور 9 لوگ بس میں سوار ہوئے۔ بتائیے کہ تب بس میں کتنے لوگ موجود ہیں؟ جب بس دوسرے اسٹاپ پر پہنچی، 14 لوگ اتر گئے اور 6 لوگ سوار ہوئے۔ بتائیے کہ کتنے لوگ اب بس میں موجود ہیں؟
- 2- شاہدہ کے پاس ₹ 75 ہیں۔ حمیرہ کے پاس شاہدہ سے ₹ 19 کم ہیں۔ بتائیے کہ حمیرہ کے پاس کتنی رقم ہے؟ اور ان دونوں کے پاس جملہ کتنی رقم ہے؟
- 3- فرقان کی جیب میں ₹ 37 ہیں۔ اس کی بہن اقراء کے پاس ₹ 56 ہے۔ بتائیے کہ ان دونوں کے پاس جملہ کتنی رقم ہے؟ اگر دونوں نے مل کر بازار میں ₹ 90 خرچ کیے تو ان کے پاس کتنی رقم بچتی ہے؟
- 4- ایک انتخابی مرحلے میں جیتنے والے نے 273 ووٹ حاصل کیے جب کہ ہارنے والے امیدوار نے جیتنے والے امیدوار سے 45 ووٹ کم حاصل کیے۔ بتائیے کہ ہارنے والے امیدوار کو کتنے ووٹ ملے؟
- 5- ایک شخص نے اپنے لڑکے کے لیے ₹ 349 میں شرٹ اور پتلون اور اپنی لڑکی کے لیے ₹ 399 میں فراک خریدے۔ اگر اس نے ₹ 1000 دکاندار کو دیے تو بتائیے کہ دکاندار نہیں کتنی رقم واپس کرے گا؟
- 
- 6- ایک میوہ فروش نے منگل کے دن 840 کیلے خریدے۔ اس نے ہفتے بھر میں 612 کیلے فروخت کیے اور 18 کیلے خراب ہوئے۔ ہفتے کے اختتام پر اس کے پاس کتنے کیلے باقی ہوں گے؟
- 7- پیر کے دن زاہد نے ₹ 175 اور اس کی بیوی نے ₹ 125 کمائے۔ انہوں نے ₹ 25 چاؤل پر ₹ 18 ترکاریوں پر اور ₹ 57 دوسرا اشیا پر خرچ کیے۔ بتائیے کہ اس دن ان دونوں نے کتنی رقم کی بچت کی؟
- 8- ایک ٹسٹ میاچ میں ہندوستانی کرکٹ ٹیم نے 517 رن بنائے۔ کشمکش نے 137 رن اور درواڑ نے 165 رن بنائے۔ بتائیے کہ ٹیم کے باقی کھلاڑیوں نے کتنے رن بنائے؟
- 9- اظہر کے پاس 384 بکرے ہیں۔ مظہر کے پاس اظہر سے 49 بکرے کم ہیں اور اصغر کے پاس اظہر اور مظہر کے جملہ بکروں کی تعداد کے مساوی بکرے ہیں۔ بتلائیے کہ
- (i) اصغر کے پاس کتنے بکرے ہیں؟
 - (ii) تینوں کے پاس جملہ کتنے بکرے ہیں؟

کتنی مرتبہ؟



$$1 \text{ درجن} = 12$$

(1) دکان میں کتنے سیب ہیں؟

سیب کی _____ قطاریں ہیں۔

ہر قطار میں _____ سیب ہیں۔

جملہ سیب کی تعداد _____ ہے۔

(2) سیب کی قیمت آم کی قیمت کا کتنے گناہے؟

(3) ندیم نے دکان سے 2 درجن موز خریدے۔ وہ میوہ فروش کو کتنی رقم ادا کریگا؟

(4) ثانیہ نے 3 کیلو آم اور ایک کیلو سیب خریدے۔ اسے میوہ فروش کو کتنی رقم ادا کرنی ہوگی؟

اب! کیا آپ تصویر کی مدد سے اوپر دینے گئے سوالات کی طرح مزید سوالات بنائے ہیں؟

لال ٹیکڑی گاؤں کے جادوئی پانپس

کسی زمانہ کی بات ہے کہ لال ٹیکڑی گاؤں میں 4 جادوئی پانپس تھیں۔ ان پانپس میں جو بھی جاتا اپنے آپ دگنا ہو جاتا۔



اگر 1 بلی پانپ میں داخل ہوتی تو 2 بلیاں باہر آتیں۔

اگر 4 گیند پانپ میں پھینگے جاتے تو 8 باہر آتے۔

(a) اگر 6 چڑیاں پانپ میں داخل ہوں گی، تب کتنی چڑیاں باہر آئیں گی؟


جو بھی اس پانپ میں داخل ہوتا تین گناہو جائے گا



جب 2 مینڈک پانپ میں چھلانگ لگاتے ہیں، 6 مینڈک باہر آتے ہیں۔

(a) اگر چھٹی پانپ میں جاتے ہیں، کتنے باہر آئیں گے؟


جو بھی اس پانپ میں جاتا ہے چھ گناہو جاتا ہے۔



(a) اگر 7 چڑیاں پانپ میں جاتے ہیں، تب کتنے باہر آئیں گے؟

(b) اگر 8 کتے پانپ میں جاتے ہیں، تب کتنے باہر آئیں گے؟

جو بھی اس پاپ میں داخل ہوگا 8 گنا ہو جائیگا۔



(a) اگر 9 کلریاں پاپ میں داخل ہوتی ہیں، تب کتنی باہر آئیں گی؟

(b) اگر 8 چیونٹیاں پاپ میں رینگتی ہیں۔ تب کتنی باہر آئیں گی؟

اعداد کتوڑتے ہوئے عمل ضرب:-

رشید اور نازنین ایک دوسرے سے پہاڑے پوچھ رہے ہیں۔



رشید : 7 کا 8 گنا کیا ہوگا؟

نازنین : 56


نازنین : 6 کا 13 گنا کیا ہوگا؟

رشید : میں نہیں جانتا۔ میں پہاڑے صرف 10 تک جانتا ہوں۔


نازنین : 13 کا پہاڑانہ جانے کے باوجود آپ جواب دے سکتے ہیں۔

13 کے دو حصے 10 اور 3 بنائیے۔ آپ ان کو 6 سے ضرب دے کر حاصل اعداد کو جمع کیجئے۔

میں آپ کی نوٹ بک پر بتاتی ہوں۔



رشید: ہاں تم صحیح ہو! میں 13 کے دو حصے 5 اور 8 بھی کر سکتا ہوں۔



نازین: ہاں! ایک عدد کو چھوٹے اعداد میں گلترے کرنے پر عمل ضرب کا طریقہ آسان ہو جاتا ہے۔

- (1) ذیل کے اعداد کو اپنے انداز میں کوتور کر ضرب دیجئے اور دیکھئے کہ آپ کے دوستوں نے کس طرح حل کیا ہے؟
- a) 18×9 b) 17×6 c) 19×8 d) 26×7
- (2) ایک باغ میں آم کے درخت کے 12 قطار ہیں۔ اگرہر قطار میں 10 درخت ہوں تو باغ میں آم کے جملہ کتنے درخت ہوں گے؟
- (3) ایک بس میں 18 صاف ہیں۔ ہر صاف میں 5 مسافر بیٹھ سکتے ہیں۔ بس میں جملہ کتنے مسافر بیٹھ سکتے ہیں؟ اس طرح کی 3 بسوں میں جملہ کتنے مسافر بیٹھ سکتے ہیں؟
- (4) حمیرہ کی عمر 9 سال ہے۔ اس کے امی کی عمر اس کی عمر کا تین گناہے۔ تب حمیرہ کے امی کی عمر کیا ہوگی؟
- (5) کمرہ جماعت کے ایک فتح پر 4 پچھے بیٹھتے ہیں۔ اس طرح کی 22 فتح پر جملہ کتنے پچھے بیٹھ سکتے ہیں۔
- (6) ایک پن کی قیمت 8 روپے ہے۔ اس طرح کے 48 پن کی قیمت کیا ہوگی؟



پنسل کے پیکٹ اور بکے:

ایک پیکٹ میں 10 پنسل ہوتے ہیں۔

- | | |
|--------------------|-----------------------------------|
| $2 \times 10 = 20$ | دو پیکٹ میں کتنے پنسل ہوں گے؟ (a) |
| $3 \times 10 = 30$ | 3 پیکٹ میں کتنے پنسل ہوں گے؟ (b) |
| $4 \times 10 = 40$ | 4 پیکٹ میں کتنے پنسل ہوں گے؟ (c) |
| _____ | 8 پیکٹ میں کتنے پنسل ہوں گے؟ (d) |
| _____ | 10 پیکٹ میں کتنے پنسل ہوں گے؟ (e) |
| _____ | 14 پیکٹ میں کتنے پنسل ہوں گے؟ (f) |
| _____ | 26 پیکٹ میں کتنے پنسل ہوں گے؟ (g) |
| _____ | 57 پیکٹ میں کتنے پنسل ہوں گے؟ (h) |

اگر ایک بکے میں اس طرح کے 10 پیکٹ موجود ہوں تو اس بکے میں جملہ کتنے پنسل ہوں گے؟ $10 \times 10 = 100$


(a) اس طرح کے 2 پنسل کے بکسوں میں کتنے پنسل ہوں گے؟ $2 \times 100 = 200$

(b) اس طرح کے 4 پنسل کے بکسوں میں کتنے پنسل ہوں گے؟ $4 \times 100 = 400$

(c) اس طرح کے 6 پنسل کے بکسوں میں کتنے پنسل ہوں گے؟ _____

(d) اس طرح کے 8 پنسل کے بکسوں میں کتنے پنسل ہوں گے؟ _____

(e) اس طرح کے 10 پنسل کے بکسوں میں کتنے پنسل ہوں گے؟ _____



ذیل میں دی گئی ترتیب کا مشابہہ کیجئے اور خالی جگہوں کو پر کیجئے۔

$2 \times 20 = 40$

$2 \times 30 = 60$

$2 \times 40 = 80$

$3 \times 20 = 60$

$3 \times 30 = 90$

$3 \times 40 = 120$

$4 \times 20 = 80$

$4 \times 30 = 120$

$4 \times 40 = 160$

$5 \times 20 = 100$

$5 \times 30 = 150$

$5 \times 40 = 200$

$6 \times 20 = \text{_____}$

$6 \times 30 = \text{_____}$

$6 \times 40 = \text{_____}$

$7 \times 20 = \text{_____}$

$7 \times 30 = \text{_____}$

$7 \times 40 = \text{_____}$

$8 \times 20 = \text{_____}$

$8 \times 30 = \text{_____}$

$8 \times 40 = \text{_____}$

$9 \times 20 = \text{_____}$

$9 \times 30 = \text{_____}$

$9 \times 40 = \text{_____}$

$10 \times 20 = \text{_____}$

$10 \times 30 = \text{_____}$

$10 \times 40 = \text{_____}$

$11 \times 20 = \text{_____}$

$11 \times 30 = \text{_____}$

$11 \times 40 = \text{_____}$

$12 \times 20 = \text{_____}$

$12 \times 30 = \text{_____}$

$12 \times 40 = \text{_____}$

کوشش کیجئے:

(1) اعداد کے سلسلہ کو 50، 60 اور 70 سے ضرب دیجئے۔ آپ کس طرح کی ترتیب پائیں گے؟ کیا یہ اوپر بتائی گئی ترتیب کے مشابہہ ہے؟

کیا مساوی ہیں؟

(a) $2 \times 8 = \underline{\hspace{2cm}}$	(b) $6 \times 7 = \underline{\hspace{2cm}}$	(c) $9 \times 8 = \underline{\hspace{2cm}}$
$8 \times 2 = \underline{\hspace{2cm}}$	$7 \times 6 = \underline{\hspace{2cm}}$	$8 \times 9 = \underline{\hspace{2cm}}$
(d) $10 \times 5 = \underline{\hspace{2cm}}$	(e) $12 \times 3 = \underline{\hspace{2cm}}$	(f) $13 \times 5 = \underline{\hspace{2cm}}$
$5 \times 10 = \underline{\hspace{2cm}}$	$3 \times 12 = \underline{\hspace{2cm}}$	$5 \times 13 = \underline{\hspace{2cm}}$

اپنی پسند سے کوئی دو اعداد لے جائے۔ اور بتائے گئے طریقہ سے ضرب دیجئے۔ اور دیکھیے کہ کیا اوپر دیا گیا رشتہ صحیح ہے۔

آپ اپنی پسند کے جتنے چاہیں اعداد لے کر اس عمل کو دھرائیے۔

آپ کس نتیجہ پر پہنچتے ہیں؟


یہ کیجئے

غالی جگہوں کو پر کیجئے


(a) $8 \times 9 = \underline{\hspace{2cm}} \times 8$	(b) $4 \times 10 = \underline{\hspace{2cm}}$
(c) $7 \times 100 = \underline{\hspace{2cm}}$	(d) $16 \times 5 = 5 \times \underline{\hspace{2cm}}$
(e) $9 \times \underline{\hspace{2cm}} = 15 \times 9$	(f) $9 \times 70 = \underline{\hspace{2cm}}$
(g) $12 \times 50 = \underline{\hspace{2cm}}$	(h) $\underline{\hspace{2cm}} \times 8 = 8 \times 23$

ذیل کے خانوں کو مکمل کیجئے۔ آپ کے لئے ایک مثال دی گئی ہے۔ (2)


(a)




(b)




(c)




(d)





3۔ ذیل کی تصاویر میں دی گئی معلومات کے استعمال سے عمل ضرب پر عبارتی سوالات تیار کیجئے۔



بڑے اعداد کی ضرب:


ٹپھر نے یہ عبارتی سوال تختہ سیاہ پر لکھا۔

اگر ایک تھیلے چاول کی قیمت 325 روپے ہو تو تین تھیلے چاول کی قیمت کیا ہو گی؟

$$325 \times 3 = ?$$

سلمنی اور سلیم اس سوال کو مختلف طریقے سے کرتے ہیں۔


سلمنی نے اس طرح کیا



325 کو میں پہلے اکائی، دہائی اور سینکڑے کے ہنڑوں میں بانٹتی ہوں۔ میں نے پہلے 3 کو 3 سے ضرب دیا۔ پھر 20 کو 3 سے ضرب دیا اور پھر 5 کو 3 سے ضرب دیا۔ آخر میں تمام حاصل ضرب کو جمع کیا۔



سلیم نے اس طرح کیا۔




میں نے اکائی کے ہندسے کو پہلے 3 سے ضرب دیا حاصل ضرب 15 تھا۔ کے 10 کو میں نے دہائی کے مقام پر منتقل کیا اور اسکو میں 2 کے اوپر 1 لکھ کر ظاہر کیا جبکہ 5 کو اکائی مقام پر بطور جواب لکھا۔ پھر میں نے دہائی کے ہندسے کو 3 سے ضرب دیا اور اسی میں 1 کو جمع کیا جس کو منتقل کیا گیا تھا۔ سطر 7 کو میں نے دہائی کے مقام پر بطور جواب لکھا۔ بعد میں نے سینکڑے کے ہندسے کو 3 سے ضرب دیا۔ اور حاصل ضرب 9 کو جواب کے سینکڑے کے مقام پر لکھا۔

ٹپھر نے اس سوال کو تختہ سیاہ پر لکھا۔

$$45 \times 23 = ?$$

سلمنی نے اس طرح حل کیا۔



40	5	\times	
800	100	$+$	20
120	15	$+$	3

$$45 \times 23 = 800 + 100 + 120 + 15 = 1035$$

$$\begin{array}{r}
 & 1 \\
 & 4 \ 5 \\
 \times & 2 \ 3 \\
 \hline
 & 1 \ 3 \ 5 \\
 & 9 \ 0 \ 0 \\
 \hline
 & 1 \ 0 \ 3 \ 5
 \end{array}$$

سلیم نے اس طرح حل کیا۔

ٹپھر: شاباش! آپ سب نے مختلف طریقے استعمال کئے۔ آپ کے سب کے جواب صحیح ہیں۔ اپنے دوستوں سے ان طریقوں میں پائے جانے والے فرق کے بارے میں تبادلہ خیال کیجئے۔

یہ کیجئے

(1) سلمی اور سلیم کے حل کرنے کے طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے حسب ذیل سوالات کو کیجئے۔

(a) 85×21

(b) 157×4

(2) ایک شادی خانہ میں کرسیوں کو 35 صفوں میں جمایا گیا ہے۔ اگر ہر ایک صف میں 19 کرسیاں ہوں تو بتائیے کہ شادی غانہ میں جملہ کتی کرسیاں جمائی گئی ہیں؟

(3) ایک چاول کے تھیلہ کا وزن 50kg ہے۔ اس طرح کے 17 تھیلیوں کا وزن کیا ہوگا؟

(4) ایک بکری کا وزن 27kg ہے۔ اگر گھوڑے کا وزن بکری کے وزن کا 18 گناہ ہو تو بتائیے کہ گھوڑے کا وزن کیا ہوگا؟


(5) نلگنڈہ سے مریاں گوڑہ جانے کے لیے بس کا کرایہ 38 روپے ہے۔ اگر 42 مسافر اس راستے پر سفر کر رہے ہوں تو وہ کتنا کرایہ ادا کریں گے؟

(6) ایک مشین ایک گھنٹے میں جملہ 235 کھلونے کے بکسے پیک کرتی ہے۔ 4 گھنٹوں میں یہ کتنے بکسے پیک کرے گی؟

(7) ایک ٹرک میں 140 تھیلے سمنٹ لادے جاسکتے ہیں۔ اس طرح کے پانچ ٹرک میں کل کتنے تھیلے سمنٹ لادے جائیں گے؟

درست جواب کی ضرورت نہیں صرف اندازہ لگائیے۔

ٹپھر نے حمیرہ سے پوچھا کہ آپ کے گاؤں میں جملہ کتنے لوگ رہتے ہیں؟




اس طرح میرے گاؤں میں $40 \times 4 = 160$ افراد رہتے ہیں۔

a) اب کیا آپ اپنے گاؤں میں رہنے والے افراد کا اندازہ لگاسکتے ہیں؟

اس کے بعد ٹپھر نے تختہ سیاہ پر یہ سوال لکھا اور طلباء سے کہا کہ اس کے قریب ترین جواب کا انتخاب کریں۔

ایک نوٹ بک کی قیمت 9 روپیوں ہے۔ اس طرح 22 نوٹ بکس کی قیمت کیا ہو گی؟

₹ 300 ₹ 250 ₹ 280 ₹ 220



حمدیہ 200 روپیے پر صحیح نشان لگاتی ہے۔

1) کیا آپ حقیقی حاصل ضرب کے قریب ترین عدد کا اندازہ لگاسکتے ہیں؟

a) ہر ایک ٹوکری میں 26 آم ہیں۔ اس طرح کی 19 ٹوکریوں میں جملہ کتنے آم ہوں گے؟

460 480 500

b) فلم کے ٹکٹ کی قیمت 25 روپے ہے۔ اگر ایک جماعت کے 28 طلباء فلم دیکھنے جاتے ہیں تو بتائیے کہ ٹکٹ خریدنے کے لیے کتنے رقم درکار ہوگی؟

₹800 ₹750 ₹900

c) راشد اپنے کھیت میں چند پودے لگانا چاہتا ہے۔ وہ 26 قطاروں میں پودے لگانا چاہتا ہے۔ اگر ایک قطار میں 27 پودے لگائے جائیں تو جملہ کتنے پودے خریدنے ہوں گے؟

600 780 900

d) ایک کرسی کی قیمت 175 روپے ہے۔ 5 کرسیوں کی قیمت کیا ہوگی؟

₹ 500 ₹ 1000 ₹ 1500

مشن

(1) ایک اسکول بیاگ کی قیمت 75 روپے ہے۔ اس طرح کے 3 بیاگ کی قیمت کیا ہوگی؟

(2) اسکول اس بیلی کے دوران ایک قطار میں 15 طلباء کھڑے ہیں۔ اس بیلی میں اس طرح کی 7 قطاروں میں کتنے طلباء کھڑے ہوں گے؟

(3) ایک ڈبے میں 6 قطاریں ہیں اور ہر قطار میں 24 سیب ہیں۔ اس ڈبے میں جملہ کتنے سیب ہیں؟

(4) ایک آٹو ٹرالی میں آم کے 64 تھیلے ہیں۔ ہر تھیلے میں 36 آم ہیں تو بتائیے کہ ٹرالی میں کتنے آم ہیں؟

(5) اگر ایک لیٹر دودھ کی قیمت 30 روپے ہے۔ تب بتائیے 85 لیٹر دودھ کی قیمت کیا ہوگی؟

(6) ایک پٹری کا طول 15 سمر ہے۔ بر قی کھبے کی بلندی پٹری کے طول کا 50 گناہے۔ تب کھبے کی بلندی کیا ہوگی؟

(7) خلیل کی ایک دن کی کمائی 175 روپے ہے۔ اس کی بہن کی کمائی خلیل کی کمائی کا تین گناہے۔ تب خلیل کی بہن کی ایک دن کی کمائی کیا ہوگی؟

مساوی حصے اور مساوی گروپ

نازیہ کے والد اپنے گھر میں مومن بیان بنا کر انھیں بازار میں فروخت کرتے ہیں۔ نازیہ ان مومن بیتوں کی پیکنگ میں اپنے والد کی مدد کرتی ہے۔ پیر کے دو نازیہ کے والد نے 30 مومن بیان تیار کیں۔ انہوں نے 5 مومن بیتوں والے پیکٹ بنانے کے لیے نازیہ سے کہا۔ بتائیے کہ نازیہ کتنے پیکٹ تیار کرے گی؟



نازیہ نے ان تمام مومن بیتوں کو 5 کے گروپ میں تقسیم کیا۔

$$30 \div 5 = 6$$

چنانچہ اس نے 6 پیکٹ تیار کیے۔




(a) نازیہ کے والد اگر اس سے ایک پیکٹ میں 6 مومن بیان رکھنے کے لیے کہتے تو وہ کتنے پیکٹ تیار کرے گی؟



(b) اسی طرح اگر وہ نازیہ سے ہر پیکٹ میں 10 مومن بیان رکھنے کے لیے کہتے تو وہ کتنے پیکٹ تیار کرے گی؟

منگل کے روز والد نے 24 موم بتیاں تیار کیں۔ انھوں نے نازیہ سے ان موم بتیوں کے 3 مساوی پیکٹ بنانے کے لیے کہا۔



(c) ہر پیکٹ میں کتنی موم بتیاں موجود ہوں گی؟
نازیہ نے ان تمام موم بتیوں کو 3 گروپ میں تقسیم کیا۔

$$24 \div 3 = 8$$

چنانچہ اس نے ہر ایک پیکٹ میں 8 موم بتیاں رکھیں۔

(d) اگر نازیہ کے والد ان موم بتیوں کو 8 پیکٹ میں مساوی طور پر رکھنے کے لیے کہتے تو ہر پیکٹ میں کتنی موم بتیاں ہوتیں؟

(e) اسی طرح نازیہ کو 12 پیکٹ میں ان موم بتیوں کو مساوی طور پر رکھنے کے لیے کہا جاتا تو ایسی صورت میں ہر پیکٹ میں کتنی موم بتیاں ہوتیں؟

یہ کبھی!

1۔ ایک جیپ میں بہ ایک وقت 18 آدمی بہ آسانی بیٹھ سکتے ہیں۔ تب ایک گاؤں سے 48 آدمیوں کو کسی میلے میں لے جانے کے لیے کتنے جیپ گاڑیوں کی ضرورت پڑے گی؟

اگر 6 سنگڑوں کی قیمت 54 روپے ہے تب ایک سنگڑے کی قیمت کیا ہوگی؟


3۔ ایک جماعت میں 42 طلباء ہیں۔ یہ پچھے 7 صفووں میں اس طرح بیٹھے ہیں کہ ہر صف میں طلباء کی تعداد مساوی ہے۔ تب ہر صف میں طلباء کی تعداد کیا ہوگی؟

4۔ دواعداد کا حاصل ضرب 56 ہے۔ ان میں سے اگر ایک عدد 7 ہے تب دوسرا عدد کیا ہوگا؟

تقسیم کبھی اور ضرب دیجیے۔

ہم تقسیم کے لیے اکثر ضرب کا استعمال کرتے ہیں۔ اب حسب ذیل تصاویر کی مدد سے تقسیم اور ضرب کا ایک ایک سوال لکھیے۔ یہاں آپ کے لیے ایک مثال دی گئی ہے۔

(a)





$$12 \div 2 = 6$$

(b)



$$2 \times 6 = 12$$



در اصل ہم ضرب کے ذریعے یہ جا چکر سکتے ہیں کہ تقسیم کے سوالات درست ہیں یا نہیں۔ یاسمن نے جو تقسیم کا سوال کیا تھا اس نے ضرب کے ذریعے اس کی جا چکر کی۔

$$\begin{array}{r}
 84 \div 4 = 21 \\
 \hline
 & 21 \quad \text{خارج قسمت} \\
 & \overline{4)84} \quad \text{مقدوم عليه} \\
 & \underline{-8} \quad \text{مقدوم} \\
 & \hline
 & 04 \\
 & \underline{-04} \\
 & \hline
 & 0
 \end{array}$$

جاخ 21 × 4 84

لہذا اور $21 \times 4 = 84$

۱۰

- 1۔ تقسیم کیجیے اور ضرب کے ذریعے اس کی جانچ کیجیے۔

(a) $75 \div 5$ (b) $84 \div 7$ (c) $96 \div 6$

2۔ اسلم نے 96 روپے میں چند کتابیں خریدیں۔ ایک کتاب کی قیمت اگر 8 روپے ہے تو اسلم نے جملہ کتنی کتابیں خریدیں؟

3۔ 95 روپے میں 5 روپے کے کتنے نوٹ ہوں گے؟



4۔ ایک درزی (ٹیلر) ایک شرٹ پر 6 گنڈیاں (بٹن) ٹانکتا ہے۔ اگر اس درزی کے پاس 84 بٹن موجود ہوں تو وہ ان بٹن کو کتنے شرٹ پر طاناک سکے گا؟

5۔ دواعداد کو ضرب دینے پر 77 حاصل ہوتا ہے۔ اگر ان میں سے ایک عدد 7 ہے تو دوسرا عدد کیا ہوگا؟

6۔ عید الفطر 28 دن بعد ہے۔ بتائیے کہ عید الفطر کے لئے کتنے ہفتے باقی ہیں؟

7۔ مجھے اگر 7 سے ضرب دیا جائے تو 91 حاصل ہوگا۔ تب میں کون ہوں؟





کیا 7 گیندوں کو 2 بچوں میں مساوی طور پر تقسیم کیا جاسکتا ہے؟

تقسیم کیا جاتا ہے تب ہر ایک بچے کو تین، تین گیندیں ملیں دیکھیں!

جب 7 گیندوں کو 2 بچوں میں مساوی طور پر

گی۔ ایک گیند باقی رہ جائے گی۔ آئیے یہ تقسیم

$$\begin{array}{r} 3 \\ 2) \overline{7} \\ 6 \\ \hline 1 \end{array}$$

3 خارج قسمت ہے
1 باقی ہے۔

اب تقسیم کیجیے اور باقی معلوم کیجیے۔

(a) 14 کتابوں کو چار گروپ میں تقسیم کیجیے۔

(i) ہر گروپ میں کتنی کتابیں ہوں گی؟

(ii) کتنی کتابیں باقی رہ جائیں گی؟

(b) 9 بلب کو دو کمروں میں مساوی لگائیے۔

(i) ہر کمرے میں کتنے بلب لگائے گئے؟

(ii) کتنے بلب باقی رہے؟

(c) 15 پنسل کو 4 بچوں میں مساوی تقسیم کیجیے۔

(i) ہر بچے کو تتنی پنسلیں ملیں گی؟

(ii) کتنی پنسلیں باقی رہ جائیں گی؟

اب 68 سنگڑوں کو 6 افراد میں مساوی تقسیم کیجیے۔

$$\begin{array}{r} 11 \\ \text{خارج قسمت} \\ \hline 6) \overline{68} \\ 6 \downarrow \\ \hline 08 \\ 06 \\ \hline 02 \end{array}$$

11 خارج قسمت ہے۔

2 باقی ہے۔

پہنچیے۔

1۔ تقسیم کیجیے خارج قسمت اور باقی معلوم کیجیے۔

(a) $63 \div 5$ (b) $49 \div 3$ (c) $54 \div 4$

(d) $67 \div 5$ (e) $85 \div 4$ (f) $68 \div 4$

2۔ اگر ایک لیمو کی قیمت 3 روپے ہے تو 50 روپے میں کتنے لیمو خریدے جاسکتے ہیں؟ کیا کچھ رقم بچے گی؟

3۔ میں 30 اور 40 کے درمیان موجود ہوں۔ جب مجھے 5 سے تقسیم کیا جائے تو، 3 باقی رہ جائے گا۔ پہچانیے کہ میں کون ہوں؟

4۔ اگر 74 سیبوں کو 9 ڈبوں میں مساوی طور پر رکھا جاتا ہے تو ہر ڈبے میں کتنے سیب آئیں گے؟ کتنے سیب باقی رہ جائیں گے؟

5۔ 93 روپے میں کتنے 10 روپے ہوتے ہیں؟ اور کتنے 1 روپے یونچ جائیں گے؟

6۔ میں 50 اور 60 کے درمیان موجود ہوں۔ جب مجھے 7 سے تقسیم کیا جاتا ہے تو باقی ایک رہ جاتا ہے۔ میں کون ہوں؟

7۔ ایک ٹیچر نے اپنی جماعت کے بچوں کے لیے 75 نوٹ بک خریدے۔ اگر وہ ہر 1 بچے کو باقی 4 کا پیاں دیتی ہیں تو وہ

کتنے بچوں میں نوٹ بک تقسیم کر سکیں گی؟ کتنی نوٹ بک باقی رہ جائیں گی؟

بڑے اعداد کی تقسیم

جناب وحید صاحب نے تختہ سیاہ پر یہ سوال لکھا۔
ہمیشہ کی طرح بچوں نے سوال کو مختلف انداز میں حل کیا۔
ارباز نے اس طرح حل کیا۔

$$250 \div 2$$




$$\begin{array}{r} 100 + 25 \\ \hline 2) 250 \\ - 200 \\ \hline 50 \\ - 50 \\ \hline 0 \end{array}$$

125 = خارج قسمت

0 = باقی

یاسمین نے اس سوال کو اس طرح حل کیا ہے۔



$$\begin{array}{r} 125 \\ \hline 2) 250 \\ - 2 \\ \hline 05 \\ - 4 \\ \hline 10 \\ - 10 \\ \hline 0 \end{array}$$

125 = خارج قسمت

0 = باقی

ان کے طریقوں میں پائے جانے والے فرق کے بارے میں اپنے دوستوں اور ٹیچر سے تبادلہ خیال کیجئے۔

جناب وحید صاحب نے تختہ سیاہ پر ایک اور سوال لکھا۔

$$398 \div 4 = ?$$

بچے اس سوال کو ہمیشہ کی طرح مختلف طریقوں سے حل کرتے ہیں۔
آمنہ نے اس سوال کو اس طرح حل کیا۔

$$\begin{array}{r} 50 + 40 + 9 \\ 4) \overline{398} \\ 200 \\ \hline 198 \\ 160 \\ \hline 38 \\ 36 \\ \hline 2 \end{array}$$

خارج قسمت = 99
باقي = 2

وہ کون سا عدد ہوگا جس کا 4 گنا آپ
کو 398 کے قریب پہنچادے گا؟

وہ کون سا عدد ہوگا جس کا 4 گنا آپ
کو 398 کے قریب پہنچادے گا؟

ارباز اس طرح حل کرتا ہے؟

$$\begin{array}{r} 90 + 9 \\ 4) \overline{398} \\ 360 \\ \hline 38 \\ 36 \\ \hline 2 \end{array}$$

خارج قسمت = 99
باقي = 2

وہ کون سا عدد ہوگا جس کا 4 گنا
آپ کو 398 کے قریب پہنچادے گا؟
وہ کون سا عدد ہوگا جس کا 4 گنا
آپ کو 38 کے قریب پہنچادے گا؟

یاسمین نے اس سوال کو اس
طرح حل کیا ہے۔

$$\begin{array}{r} 99 \\ 4) \overline{398} \\ 36 \downarrow \\ \hline 38 \\ 36 \\ \hline 2 \end{array}$$

خارج قسمت = 99
باقي = 2

ان کے طریقوں میں پائے جانے والے فرق کے بارے میں اپنے دوستوں اور ٹیچر سے تبادلہ خیال کیجئے۔

$$305 \div 10 = ?$$

ٹیچر نے اس سوال کو تختہ سیاہ پر لکھا۔

بچوں نے دوبارہ سوال کو مختلف طریقوں سے حل کیا۔

آمنہ نے اس طرح حل کیا۔

$$\begin{array}{r} 30 \\ \hline 10) \overline{305} \\ 30 \\ \hline 5 \\ \text{باقي} = 5 \end{array}$$

خارج قسمت = 30
باقي = 5

یاسمین نے اس سوال کو اس طرح حل کیا:

$$\begin{array}{r} 30 \\ \hline 10) \overline{305} \\ 30 \\ \hline 5 \\ \text{باقي} = 5 \end{array}$$

خارج قسمت = 30
باقي = 5

کمال اس سوال کو اس طرح حل کرتا ہے:

$$\begin{array}{r} 3 \\ \hline 10) \overline{305} \\ 30 \\ \hline 5 \\ \text{باقي} = 5 \end{array}$$

خارج قسمت = 30
باقي = 5

کیا تمام جوابات صحیح ہیں؟ کمال نے کیا غلطی کی؟

کوششی!

1. فرحت کے پاس کتنے آم بیں معلوم کیجیے اگر وہ 2 بچوں میں آموں کو مساوی طور پر تقسیم کرتی ہے تو ایک بھی آم باقی نہیں رہتا، اور جب وہ ان ہی آموں کو 3 بچوں میں تقسیم کرتی ہے تو ایک آم باقی رہ جاتا ہے؟

نقیمہ مت کیجیے اصرف اندازہ لگائیے!

اگر 97 روپیوں کو 5 آدمیوں میں مساوی طور پر تقسیم کیا جائے تو ہر آدمی کو کتنے روپیے ملیں گے؟
 عدد 100 کے قریب ہے اور 100 کو بآسانی 5 سے تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ اس لیے ہر شخص کو $100 \div 5 = 20$ روپے میں گے۔

اب حسب ذیل سوالات پر غور کرتے ہوئے اندازہ لگائیے اور قریبی جواب پر نشان لگائیے۔

(a) اگر 73 کنچوں کو 4 بچوں میں مساوی تقسیم کریں تو ہر بچے کو تقریباً کتنے کچے ملیں گی؟

70 20 50

(b) اگر 92 پنسل کو 9 بچوں میں مساوی طور پر تقسیم کریں تو ہر بچے کو کتنے پنسل ملیں گے؟

12 10 8

(c) اگر 187 لاڈوں کو بکسوں میں اس طرح رکھنا ہے کہ ہر ایک بکسے میں 6 لاڈوں آئیں تب 187 لاڈوں کو کتنے بکسوں کی ضرورت پڑے گی؟

40 30 20

(d) اگر 7 آدمیوں میں 131 روپے تقسیم کرنا ہوتا ہے تو ہر آدمی کو کتنی رقم ملے گی؟

10 15 20

(e) اگر 8 آدمیوں میں 461 روپے تقسیم کرنا ہے تو ہر آدمی کو کتنی رقم ملے گی؟


70 60 80

مشق

1۔ مجھے 4 سے ضرب دینے پر تب 48 حاصل ہوتا ہے۔ پہچانیے میں کون ہوں؟

2۔ ایک کار 3 گھنٹے میں 96 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے۔ اگر وہ ہر گھنٹہ میں مساوی فاصلہ طے کرتی ہے تو وہ ایک گھنٹے میں کتنا فاصلہ طے کرے گی؟

3۔ ایک ٹیچر نے 72 کاپیاں خریدیں اور ہر بچے کو 4 کاپیاں دیں۔ تب کتنے بچوں میں کاپیاں تقسیم کی گئیں؟



- 4- دو اعداد کا حاصل ضرب 72 ہے۔ ان میں سے ایک عدد 12 ہے تب دوسرا عدد کیا ہوگا؟
- 5- ایک رسی کی لمبائی 91 میٹر ہے۔ اس رسی سے 7 میٹروں والے کتنے ٹکڑے کیے جاسکتے ہیں؟
- 6- جب مجھے 9 سے ضرب دیا جاتا ہے تو 729 حاصل ہوتا ہے۔ میں کون ہوں؟
- 7- ایک ٹرین کے 9 ڈبوں میں 1648 افراد موجود ہیں۔ ہر ڈبے میں کتنے افراد موجود ہوں گے؟
- 8- 783 ساڑیوں کو 9 ڈبوں میں مساوی طور پر رکھا گیا ہے۔ ہر ڈبے میں کتنی ساڑیاں ہوں گی؟
- 9- 352 بچے تفریح کے لئے روانہ ہوئے۔ اگر ایک خمیے میں 8 بچوں کے لئے سونے کی گنجائش ہے تب ان بچوں کے لیے کتنے خمیوں کی ضرورت ہوگی؟
- 10- چاول کے 7 تھیلیوں کا وزن 350 کلوگرام ہے۔ اگر تمام تھیلیوں کا وزن مساوی ہے تب ہر تھیلی کا وزن کیا ہوگا؟
- 11- ایک سال میں کتنے ہفتے ہوتے ہیں؟ یاد رکھیے کہ ایک سال میں 365 دن اور ایک ہفتہ میں 7 دن ہوتے ہیں۔
- 12- ایک سیب کی قیمت 14 روپے ہے۔ ہر بکسے میں کتنے سیب خریدے جاسکتے ہیں؟ اور کیا کچھ رقم باقی رہے گی؟
- 13- 15 بکسوں میں 675 سیب رکھے گئے ہیں۔ ہر بکسے میں کتنے سیب موجود ہوں گے؟
- 14- ایک لڑکا ایک دن میں 17 صفحات پڑھ سکتا ہے۔ وہ کتنے دنوں میں 340 صفحات پڑھ سکے گا؟
- 15- ایک باغ میں لیموں کے 105 درخت 15 صفوں میں مساوی تعداد میں موجود ہیں۔
ہر صف میں کتنے درخت موجود ہوں گے؟
- 16- ایک اسکول کے 280 طلباء تفریح پر روانہ ہو رہے ہیں۔ اگر ایک بس میں 35 طلباء کی گنجائش ہو تو ان طلباء کے لیے جملہ کتنی بسیں درکار ہوں گی؟
- 17- اگر ایک ٹانکی میں 500 لیٹر پانی بھرا جاسکتا ہے۔ اس پانی سے 22 لیٹر گنجائش والی کتنی بوتلیں بھری جاسکتی ہیں؟ اس کے بعد ٹانکی میں کتنا پانی باقی رہ جائے گا؟




8


اس کی لمبائی کتنی ہے؟

آپ نے تیسرا جماعت میں پڑی کے استعمال سے پنسل کی لمبائی معلوم کی تھی۔ اپنی پڑی کو دیکھیے۔ اس پر کتنے سنتی میٹر ہیں؟ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ سنتی میٹر کو ہم خنصر طور پر cm لکھتے ہیں۔


آپ کے پاس جو پنسل یا چاک پیس ہے اس کی لمبائی کیا ہے؟ اسکو پڑی پر رکھیے اور اس کے طول کی پیمائش کیجئے۔



حسب ذیل شکل میں دی گئی اشیا کی لمبائی کتنی ہے۔



اب ان اشیا کی لمبائی دوبارہ اس طرح معلوم کیجیے۔




کیا اشیا کی پیمائش دوسرے طریقے سے آسان تھی؟ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟

لبائی کا اندازہ لگائیے اور بعد میں ان کی پیمائش کیجیے۔



سوچئے آپ کے انگوٹھے کی لمبائی کیا ہوگی؟.....

اب آپ اپنے انگوٹھے کی پیمائش کیجیے اور معلوم کیجیے کہ اسکی
لبائی کتنی ہے؟.....




اندازہ لگائیے کہ آپ کی چھوٹی انگلی کی لمبائی کیا ہوگی؟.....

اب آپ اپنی چھوٹی انگلی کی پیمائش کیجیے اور معلوم کیجیے کہ اسکی لمبائی کتنی ہے؟.....



آپ کے اندازے کے مطابق آپ کی ہتھیلی کی لمبائی کیا ہوگی؟.....

اب آپ اپنی ہتھیلی کی پیمائش کیجیے اور معلوم کیجیے کہ اس کی لمبائی کتنی ہے؟.....



آپ کی کلانی کی لمبائی کیا ہو سکتی ہے؟.....

اب آپ اپنی کلانی کو ناپیے اور معلوم کیجیے کہ اس کی لمبائی کیا ہے۔

یہ کیجیے

1 - کوئی 5 چیزوں کے نام بتائیے جن کی لمبائی تقریباً ایک سنتی میٹر سے کم ہو۔

.....

2 - 3 چیزوں کے نام بتائیے جن کی لمبائی تقریباً 15 سنتی میٹر ہو۔

.....

3- ذیل میں دی گئی اشیا کی لمبائی کا اندازہ لگائیے اور اس کے بعد پڑی کا استعمال کرتے ہوئے ان کی لمبائی معلوم کیجیے۔ دونوں کو ذیل کی جدول میں درج کیجیے۔

پیمائش کی گئی لمبائی	اندازے سے لمبائی	اشیا
		ایک مکمل چاک
		آپ کا پنسل
		آپ کا کنگھا
		آپ کا ریسر
		آپ کی چھتی
		آپ کی ریاضی کی کتاب
		آپ کی کاپی

چیونٹی کو اپنی غذا تک پہنچنے کے لیے سب سے قریبی راستے کا انتخاب کرنے میں مدد کیجیے۔




(a) چار راستوں میں سے سب سے قریبی راستہ کونسا ہے جسے چیونٹی اپنا سکے؟

(b) ان چار راستوں کے علاوہ کیا کوئی اور منحصر راستہ ہو سکتا ہے؟ اسکو بتلائیے؟

اپنے قد کی پیمائش کیجیے۔


اپنی پڑی کو دوبارہ دیکھیے۔ اس کی ایک جانب سنتی میٹر ہوتے ہیں۔ دوسری جانب انچ ہوتے ہیں۔



(a) کیا ایک انچ ایک سنتی میٹر سے بڑا ہوتا ہے؟

(b) کتنے سنتی میٹر سے ایک انچ بنتا ہے؟

اب آپ اسکیل یا پیمائشی ٹیپ کا استعمال کرتے ہوئے اپنے تین دوستوں کے قد کی پیمائش سنٹی میٹر اور انچ میں کبھیے اور دیے گئے جدول میں درج کبھیے۔




لبائی (انچ)	لبائی (سنٹی میٹر)	نام

کم لمبائی سے زیادہ لمبائی کی جانب

کیا آپ کی جماعت کا طول سنٹی میٹر میں ناپنا آسان ہے؟ اور کپڑے کی لمبائی کس طرح معلوم کی جاتی ہے؟ زیادہ لمبائی والی اشیا کو آسانی سے ناپنے کے لیے ہمیں بڑے اکائیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ شہناز کچھ کپڑا لیے ایک درزی کی دکان جاتی ہے۔



درزی نے شہناز کے لائے ہوئے کپڑے کو ناپنے کے لیے ایک پیمائشی ٹیپ کا استعمال کیا۔ کیا آپ نے پیمائشی ٹیپ دیکھا ہے؟ اس کی ایک جانب سنٹی میٹر اور دوسری جانب انچ ہوتے ہیں۔ 100 سنٹی میٹر کا ایک میٹر ہوتا ہے۔

$$100 \text{ سنٹی میٹر} = 1 \text{ میٹر} \quad (m = cm)$$

اپنے ٹیچر سے ایک میٹر طول والی رسی کاٹنے کے لیے کہیں اور آپ اس سے مختلف اشیا کی لمبائی کی پیمائش کبھیے۔

ایک اخبار لیجیے۔ اس سے 20cm, 25cm, 50cm اور 1 میٹر لمبائی والی پٹیاں کاٹ لیجیے۔

(a) 20cm کی کتنی پٹیاں ایک میٹر بناتی ہیں؟.....

(b) 25cm کی کتنی پٹیاں ایک میٹر بناتی ہیں؟.....

(c) 50cm کی کتنی پٹیاں ایک میٹر بناتی ہیں؟.....

کیا یہ ایک میٹر سے زیادہ لمبے ہیں؟

اندازہ لگائیے کہ حسب ذیل اشیا کی لمبائی ایک میٹر سے کم ہے یا زیادہ اور صحیح جواب پر (✓) کا نشان لگائیے۔ اس کے بعد ایک میٹر طول والی رسی لے کر ان اشیا کی لمبائی معلوم کیجیے۔ ایک میٹر سے کم لمبائی والی اشیا کی پیمائش کے لیے پڑی کا استعمال کیجیے۔

پیمائش کیا گیا طول	اندازہ	اشیا
	ایک میٹر سے زیادہ / ایک میٹر سے کم	کمرہ جماعت کے تختہ سیاہ کی لمبائی
	ایک میٹر سے زیادہ / ایک میٹر سے کم	کمرہ جماعت کے تختہ سیاہ کی چوڑائی
	ایک میٹر سے زیادہ / ایک میٹر سے کم	ٹپھر کی میز کے اوپری حصے کی کی لمبائی
	ایک میٹر سے زیادہ / ایک میٹر سے کم	ٹپھر کی میز کے اوپری حصے کی چوڑائی
	ایک میٹر سے زیادہ / ایک میٹر سے کم	کمرہ جماعت کی کھڑکی کی لمبائی
	ایک میٹر سے زیادہ / ایک میٹر سے کم	کمرہ جماعت کی کھڑکی کی چوڑائی


یہ کیجیے۔

1- کوئی 5 چیزوں کے نام بتائیے جو تقریباً ایک میٹر لمبی ہیں؟

2- آپ کے کمرہ جماعت کی لمبائی کتنی ہے؟ اور اس کی چوڑائی کتنی ہے؟

ایک میٹر کی رسی کا استعمال کرتے ہوئے اپنے اندازے کی جانچ کیجیے۔

حسب ذیل میں کن کی پیمائش میٹر اور کن کی پیمائش سنٹی میٹر میں کریں گے؟



اسپورٹس ڈے

اسکول اسپورٹس ڈے کے موقع پر جماعت چہارم کے طلبہ کے لیے 100 میٹر کی دوڑ کا اہتمام کیا گیا۔ رخسانہ اختتامی خط سے بالکل قریب ہے۔ وہ اختتامی خط سے 6 میٹر دور ہے۔ یاسمین دوسرے نمبر پر اور جاوید اس کے پیچے ہے۔




1- اندازہ لگائیے

- (a) یاسمین، رخسانہ سے کتنے میٹر دور ہے؟
 (b) جاوید اختتامی خط سے کتنے میٹر دور ہے؟

ان کے مکانات کتنی دوری پر واقع ہیں؟

وحید اور حیدر اپنے اسکول کی مخالف سمت میں رہتے ہیں۔



(a) وحید اور حیدر کے مکانات کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟

جیلوں تھرو

اولمپک گیمس 2012 کالندن میں انعقاد عمل میں آیا۔ جیلوں تھرو میں گولڈ، سلوور اور کانسے کا تمغہ حاصل کرنے والی خاتون کھلاڑیوں کی تقسیلات ذیل میں دی گئی ہیں۔

تھرو کی دوری	ملک کا نام	ایتھلیٹ کا نام	میڈل
69 میٹر 55 سنٹی میٹر	چیک جمہوریہ	بار بورا اسپاٹ کوا	گولڈ
65 میٹر 16 سنٹی میٹر	جرمنی	کرسٹینا او برگ فال	سلور
64 میٹر 91 سنٹی میٹر	جرمنی	لندرا ستال	کانسے



(a) بار بورا اور کرسٹینا کے تھرو کے درمیان کتنا فرق ہے؟

(b) بار بورا اور لندرا کے تھرو کے درمیان کتنا فرق ہے؟

(c) جیلوں تھرو میں بار بورا اسپاٹ کا عالمی ریکارڈ 72 میٹر 28 سنٹی میٹر ہے۔ لندن اولمپکس میں بار بورا اپنے عالمی ریکارڈ سے کتنے میٹر پیچھے رہ گئیں؟

1- چارینار کتنا بلند ہے؟



حیدر آباد میں واقع تاریخی چارینار 56 میٹر بلند ہے۔ آپ کے اسکول کی عمارت کتنی بلند ہے؟ آپ کے اسکول کی کتنی عمارتوں کو ایک دوسرے پر رکھنے سے وہ چارینار کی بلندی کے مساوی ہو جائے گی؟

مشق

$$4\text{m} = \text{cm} \quad (\text{a}) - 1$$

$$9\text{m} = \text{cm} \quad (\text{b})$$

$$450\text{cm} = \text{m} \quad (\text{c})$$

$$750\text{cm} = \text{m} \quad (\text{d})$$

2- میں نے کرتے کے لیے 2 میٹر 50 سنٹی میٹر اور پاچ میٹر کے لیے 3 میٹر 75 سنٹی میٹر کپڑا خریدا ہے۔ خریدے ہوئے کپڑے کی جملہ لمبائی کتنی ہے؟

3- صحیح 8 بجے جھنڈے کے کھبے کے ساتے کی لمبائی 3 میٹر 45 سنٹی میٹر ہے۔ دوپھر ایک بجے اس ساتے کی لمبائی ایک میٹر 65 سنٹی میٹر ہے۔ صحیح اور دوپھر کے ساتے کی لمبائی میں کتنا فرق ہے؟

4- سلطان پر دے تیار کرنے کے لیے 12 میٹر 50 سنٹی میٹر منگل گری کاٹن اور 10 میٹر 25 سنٹی میٹر پوچم پلی کاٹن کا کپڑا خریدتا ہے۔ سلطان کے خریدے گئے کپڑے کی جملہ لمبائی کتنی ہے؟

5- ایک درزی کے پاس 4 میٹر 45 سنٹی میٹر کپڑا موجود ہے۔ وہ دوپتوں سینے کے لیے 3 میٹر 95 سنٹی میٹر کپڑا اعلاحدہ کرتا ہے۔ درزی کے پاس باقی بچنے والے کپڑے کی لمبائی کتنی ہو گی؟

6- حمید نے کپڑے سکھانے کے لئے 20 میٹر رسی خریدی۔ اس نے 12 میٹر 30 سنٹی میٹر اور 7 میٹر 45 سنٹی میٹر کی دو رسیوں کا استعمال کیا۔ بتائیے کہ استعمال شدہ رسیوں کی جملہ لمبائی کتنی ہو گی؟ اور باقی بچی رسی کی لمبائی کیا ہو گی؟

7- کپڑے کے تاجر نے 140 میٹر پوچم پلی کاٹن کپڑے کا روپ خریدا۔ اس نے 46 میٹر 85 سنٹی میٹر کپڑا فروخت کیا۔ اس کے پاس کتنا کپڑا باقی ہے؟

8۔ صدر معلمہ ارجمند نے 18 میٹر طویل رہن خریدی۔ اس میں سے انھوں نے ہر لڑکی کو 25 سنٹی میٹر لمبی رہن دی۔ بتائیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کتنی لڑکیوں کو رہن بانٹ سکتی ہیں؟

9۔ شاٹ پٹ

لندن اولمپک گیمز میں شاٹ پٹ، کھیل مقابلے میں گولڈ، سلوور اور کانسے کا تمغہ حاصل کرنے والی خاتون کھلاڑیوں کی تفصیلات ذیل میں دی گئی ہیں۔



تھرو کی دوری	ملک	نام	میڈل
20 میٹر 70 سنٹی میٹر	نیوزی لینڈ	ویلاری ایڈمس	گولڈ
20 میٹر 48 سنٹی میٹر	جرمنی	یرجنیا کولوڈ کو	سلور
20 میٹر 22 سنٹی میٹر	جرمنی	گانگ لی جاو	کانسہ

- (a) ویلاری ایڈمس اور گانگ لی جاو کے تھرو میں فرق کتنا ہے؟
- (b) اس مقابلے میں حصہ لینے کے لیے پٹ کو کم از کم 18 میٹر 90 سنٹی میٹر دور پھینکنا ضروری تھا۔ ویلاری نے کم از کم حد سے کتنی دور زیادہ پٹ کو پھینکا ہے؟
- (c) شاٹ پٹ تھرو میں عالمی ریکارڈ 22 میٹر 63 سنٹی میٹر ہے اور نتا لیا لیسو سکیا اس عالمی ریکارڈ کی حامل ہے۔ یہ جینیا کا تھرو عالمی ریکارڈ سے کتنا پچھے ہے؟


یہ کتنا وزن رکھتا ہے؟



آپ نے کبھی چاول کا تحصیل اٹھایا ہے؟ کیا آپ کے لیے یہ مشکل تھا؟ کیوں؟
چاول کا تحصیل اوزنی تھا یا چاول کا پیا کٹ؟

آپ کے اندازے کے مطابق چاول کے پیا کٹ کا وزن کیا ہوگا؟
آپ کے ندازے کے مطابق چاول کے تحصیل کا وزن کتنا ہوگا؟

ہم نے تیسرا جماعت میں سیکھا تھا کہ وزن کو کلوگرام میں تولا جاتا ہے اور کلوگرام کو kg لکھا جاتا ہے۔



آپ کو کسی کرانے کی دکان میں 1kg, 2kg، 5kg اور 10kg کے باط دکھائی دیتے ہیں۔ ان سے وزنی باط جیسے 50kg، 20kg دوسری دکانوں میں دکھائی دیتے ہیں جیسے آٹے کی گرفنی جہاں گیہوں، مکی وغیرہ کی پسوانی ہوتی ہے یا جہاں پر تو شکر یا تکنی بناتے ہیں۔

آپ کے خیال میں یہاں وزنی باتوں کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟

کوشش کیجئے

آپ مختلف باتوں کو اٹھائیے اور بتائیے کہ وہ کتنے وزنی ہیں؟ اپنی ٹیچر کی مدد سے 5kg, 2kg, 1kg کے اووزان پیا کٹوں میں ریت یا مٹی کو بھر کر بنائیے۔ انھیں اٹھا کر دیکھیے اور بتائیے کہ وہ کتنے وزنی ہے۔

وزن کا اندازہ کیجئے۔


1) آپ کے اندازہ کے مطابق ذیل میں کوئی اشیا ایک کلوگرام سے نسبتاً وزنی بیس ان پر دائرہ بنائیے۔



2) ان اشیا پر دائرہ بنائیے جس کا وزن تقریباً 10 کلوگرام ہے۔



وزن کا اندازہ لگاتے ہوئے موزوں جوڑ لگائیے۔ (3)



کم سے 1kg



15kg



سے زیادہ 1000kg



300kg



30kg

4) اس ٹرک میں کتنا وزن ہے؟

عامر اور سیما وشا کھا پٹنم سے حیدر آباد منتقل ہو رہے ہیں۔ ان کا سامان ٹرک میں رکھ دیا گیا۔ ہر سامان کے وزن کو ذیل کے جدول میں بتایا گیا ہے۔



وزن	سامان
پنگ	45 کلوگرام
فرخ	60 کلوگرام
ٹیڈی	15 کلوگرام
برتن	10 کلوگرام
سوٹ کیس	60 کلوگرام
طبل	10 کلوگرام
3 کرسیاں	15 کلوگرام
الماری	30 کلوگرام

(a) اس ٹرک میں جملہ کتنا وزن ہے؟

(b) اگر عامر اور سیما ایک کلوگرام وزن سامان کے لیے 20 روپے ادا کرتے ہیں تو انہیں ٹرک کمپنی کو تین رقم دینی ہوگی؟

یوشک اور تکیے کتنے وزنی ہیں؟ (5)



سلطانہ روئی کے تو شک اور تکیے بناتی ہے۔ اس کی دکان میں 145kg روئی رکھی ہوئی ہے کریم اس سے ایک تو شک اور دو تکیے بنانے کے لیے کہتا ہے۔ سلطانہ 20kg روئی سے تو شک تیار کرتی ہے اور ہر تکیے میں 2kg روئی بھرتی ہے۔

(a) تکیے اور تو شک بنانے کے بعد سلطانہ کے پاس کتنی روئی باقی ہوگی؟

(b) سلطانہ اپنے پاس بچی ہوئی روئی سے ایسے کتنے تو شک بناسکتی ہے؟

(c) سلطانہ روئی کی قیمت فی کلو 15 روپے، تکیے و تو شک کی سلامتی کے لئے 200 روپے اور کپڑے کی قیمت 125 روپے وصول کرتی ہے۔ اس طرح کریم کو جملہ کتنی رقم ادا کرنی ہوگی۔

کلوگرام سے گرام تک

ایسی اشیا جن کا وزن ایک کلوگرام سے کم ہوتا ہے ان اشیاء کو گرام میں تولا جاتا ہے۔ آپ نے کسی کرانہ دکان میں 500gm '10gm اور 20gm کے بات دیکھے ہوں گے۔ چند کو یہاں بتایا گیا ہے۔

$$1\text{ کلوگرام} = 1000 \text{ گرام}$$



ان میں ہر ایک بات کو اٹھائیے اور معلوم کیجئے کہ وہ کتنے وزنی ہیں۔

(6) آپ کے اندازے کے مطابق ایک پنسل کا وزن کتنا ہے؟

ایک پنسل کا وزن تقریباً 3 گرام ہوتا ہے۔

ان کے وزن کا اندازہ کیجئے۔

(1) پنسل سے زیادہ وزنی اشیا پر دائرہ بنائیے۔

- (a) پن (b) چچہ (c) املی کاٹج (چنچا) (d) پیالی (e) چیونٹی (f) چاک کا لکڑا

مشغله:

کسی کرانے دکان جا کر ان اشیا کو لیجئے جن کا وزن ان کے پاکٹوں پر درج ہوا اور ذیل کے جدول کو پر کیجئے۔

1 کلوگرام وزنی اشیاء	500 گرام وزنی اشیاء	250 گرام وزنی اشیاء	150 گرام وزنی اشیاء	50 گرام وزنی اشیاء

ماریہ 1kg کپڑے دھونے کا پاؤڈر کتنے طریقوں سے خرید سکتی ہے؟

ایک دن ماریہ کپڑے دھونے کا پاؤڈر خریدنے دکان گئی۔ دکاندار نے ماریہ سے کہا کہ اس کے پاس صرف 500gm، 250gm اور 100gm کے کپڑے دھونے کا پاؤڈر پاکٹس ہیں۔

ماریہ کو وہ یاد آیا جو اس کی ٹیکرے نے اس کو سکھایا تھا۔

(a) ماریہ کتنے طریقوں سے 1kg واشنگ پاؤڈر خرید سکتی ہے؟ یہاں پر ایک طریقہ بتایا گیا ہے۔

$$1\text{kg} = 1000\text{gm} = 500\text{gm} + 500\text{gm} \quad (\text{i})$$

ماریہ 500gm کے دو پیاکٹ خرید سکتی ہے۔



$$1\text{kg} = 1000\text{gm} = 100\text{g} + \underline{\hspace{2cm}} \quad (\text{ii})$$

ماریہ _____ کے 100gm پیاک خرید سکتی ہے۔


$$1\text{kg} = 1000\text{gm} = 250\text{gm} + \underline{\hspace{2cm}} \quad (\text{iii})$$

ماریہ _____ کے 250gm پیاک خرید سکتی ہے۔

یہ کیجئے

1) حسب ذیل اشیا کی کتنی تعداد ایک کلوگرام کے مساوی ہوگی؟

(a)



(b)



(c)



(d)



ترازو کو متوازن کیجئے۔


1) مناسب اوزان سے ترازو کو متوازن کیجئے۔ جیسا کہ پہلا حل بتایا گیا ہے ہر ایک بکسوں میں مناسب وزن کو رکھتے ہوئے۔

(a)


50 g
50 g
200 g




(b)



(c)



(d)



کوشش کیجئے



کمال اپنی دکان پر 2 کلوگرام، 5 کلوگرام اور 6 کلوگرام وزنی پتھر اخبار کی روڈی تو لے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تب وہ کس طرح 1 کلوگرام، 3 کلوگرام، 4 کلوگرام اور 7 کلوگرام اخبار کی روڈی تو لے گا؟

پوسٹ آفس میں

کیا آپ نے کچھی پوسٹ آفس کا دورہ کیا ہے؟

ہم سے دور رہنے والے دوستوں اور شندروں کو خطوط اور پارسل روانہ کرنے کے لیے پوسٹ آفس جاتے ہیں۔ ذیل کے جدول میں ہمارے ملک کے اندر خطوط اور پارسل بھیجنے پر ہونے والے خرچ کی تفصیلات دی گئی ہیں۔



اشیا	قیمت (بحساب وزن)
خط	5 روپے (ہر 20 گرام یا اس سے کم وزن کے لیے)
پارسل	19 روپے (پہلے 500 گرام وزن کے لیے)
	16 روپے (بعد کے ہر 500 گرام پر)



- (a) ریشماء نے اپنی سہیلی کو تفصیلی خط لکھا۔ پوسٹ ماسٹر نے اس سے کہا کہ اس خط کا وزن 45 گرام ہے۔ ریشماء کو خط روانہ کرنے کے لیے کتنی رقم ادا کرنی ہوگی؟
- (b) ریشماء اپنی سہیلی کو جو اودے پور میں رہتی ہے 3 بناری ساڑی یاں بھیجننا چاہتی ہے۔ پارسل کا وزن 2 کلوگرام 500 گرام ہے۔ ریشماء پوسٹ ماسٹر کو کتنی رقم ادا کرے گی۔

وزن کی پیمائش کے مختلف طریقے

آج کل وزن کی پیمائش کے لیے کئی الکٹریکی آلات استعمال کئے جا رہے ہیں۔




یہ کہجھے

(1) وزن معلوم کرنے کی میشین کے استعمال سے اپنا اور اپنے چار ساتھیوں کا وزن معلوم کیجئے اور ان معلومات کو ذیل کے جدول میں درج کیجئے۔

وزن	نام



کوشش کیجئے



1) کون وزنی ہے؟ ایک کلوگرام روپی یا ایک کلوگرام لوہا؟

مشق

1) کمال کرانہ کی دکان سے مختلف اشیا خریدتا ہے جس کی تفصیلات ذیل کے جدول میں درج کی گئی ہیں۔ اندازہ کیجئے کہ اس نے کوئی اشیا کو گرام میں خریدا اور کوئی اشیا کو کلوگرام میں خریدا۔

گرام/کلوگرام	وزن	اشیا
	10	چاول
	2	شکر
	500	دال
	250	بلدی
	200	چائے کی پتی
	25	راتی

2) روزمرہ استعمال ہونے والی کوئی پانچ اشیا کے نام بتائیے جو کلوگرام میں خریدی جاتی ہیں اور کوئی پانچ اشیا کے نام بتائیے جو گرام میں خریدی جاتی ہیں۔



3) عید کے دن سلمی کے گھر 20kg چاول پکایا 8 کلو 500 گرام چاول ارکان خاندان اور دوستوں نے کھایا۔ باقی چاول غریبوں میں تقسیم کیا گیا تو بتائیے کہ غریبوں میں کتنا چاول تقسیم کیا گیا؟

4) ایک کشتی 200kg وزن لے جاسکتی ہے اگر کشتی میں موجود لوگوں کا وزن 112kg ہو تو مزید کتنا وزن ڈالا جاسکتا ہے؟

5) اکرام کا وزن 78kg اور حامد کا وزن 95kg ہے۔ حامد کا وزن اکرام کے وزن سے کتنا زیادہ ہے؟

6) میرے والد کا وزن مجھ سے تین گناہے۔ تو بتائیے کہ میرے والد کا وزن کیا ہے؟



(7) ایک آٹو ٹرالی میں 700kg وزن کے گیس سلنڈر لے جا رہے ہیں۔ اگر ایک بھرے ہوئے سلنڈر کا وزن 35kg ہو تو آٹو ٹرالی میں موجود سلنڈروں کی تعداد بتائیے؟

(8) اگر ایک موٹرسیکل کا وزن 200kg ہے اور ایک جیپ کا وزن موٹرسیکل کے وزن کا 9 گنا ہوتا جیپ کا وزن کیا ہے؟
خالی جگہوں کو پر کھینچئے۔ (9)

$$4\text{kg} = \underline{\hspace{2cm}} \text{گرام چاول} \quad (\text{a})$$

$$500 \text{ گرام دال} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ گرام دال} \quad (\text{b})$$

$$500 \text{ گرام شکر} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ گرام شکر} \quad (\text{c})$$

$$1250\text{gm} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ گرام پیاز} \quad (\text{d})$$

$$1750\text{gm} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ گرام ٹماٹر} \quad (\text{e})$$

$$2550\text{gm} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ گرام آلو} \quad (\text{f})$$

(10) وزن کا اندازہ لگائیے اور حقیقی وزن سے مقابل کھینچئے۔

اشیا	اندازہ لگایا گیا وزن	حقیقی وزن	فرق
پالتو کتا			
آپ کا اسکول بیاگ			
آپ کے بھائی / بہن			
جیولری باکس			
ایک لیٹر پانی کی بھری بوتل			
آپ کی ریاضی کی کتاب			

10

ان بوتلوں کی گنجائش کیا ہے؟

ہم تیسری جماعت میں سیکھ چکے ہیں کہ ایک بوتل میں ایک لیٹر پانی ساماتا ہے۔

ایک بوتل میں کتنے گلاس پانی ساماسکتا ہے؟

حسب ذیل برتوں میں کس میں 1 لیٹر سے زیادہ پانی ساماسکتا ہے اور کس میں 1 لیٹر سے کم۔

اس فہرست میں اضافہ بھی کیجئے۔



ایک لیٹر سے کم	ایک لیٹر سے زیادہ

1. اندازہ لگائیے کہ ذیل کی اشیاء میں کتنے لیٹر پانی کی گنجائش ہے؟


آدھے لیٹر سے کم

آدھا لیٹر

20 لیٹر

ایک لیٹر

1000 لیٹر



خالدہ ایک دن میں کتنا پانی استعمال کرتی ہے؟

خالدہ ایک باتی پانی نہانے کے لیے استعمال کرتی ہے اور ہر دن آٹھ گلاس پانی پینے کے لئے استعمال کرتی ہے اور تین باتی پانی دیگر ضروریات کے لیے۔ خالدہ ایک دن میں جملہ کتنا پانی استعمال کرتی ہے؟


(a) نہانے کے لیے _____

(b) پینے کے لیے _____

(c) دیگر ضروریات کے لیے _____



(d) خالدہ کو ایک دن میں کتنے لیٹر پانی کی ضرورت ہوتی ہے؟



1) اندازہ لگائیے کہ آپ دن بھر میں کتنے لیٹر پانی استعمال کرتے ہیں؟


ایک لیٹر سے کم

ایک چچپ میں کتنا مائع آسکتا ہے؟

ایک چچپ میں تین ملی لیٹر مائع آسکتا ہے۔

کیا آپ ان اشیا کے بارے میں بتاسکتے ہیں جن کا ہم کم مقدار میں استعمال کرتے ہیں؟ ان کو ذیل میں لکھیے۔





ڈاکٹر کے پاس

ریشماءں کا ہاتھ جھولے سے اترتے وقت کٹ گیا تھا۔ اس کے والدین اسے فوراً

ٹیانس کا بچکش دوانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ریشماءں بچکش سے

نہیں گھبرا تی اس نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ دوا سے بھرا بچکش دکھائیے۔

اس بچکش میں کتنی دوا ہے؟



ڈاکٹر نے ریشماءں کو ایک ٹانک کی بوتل بھی دی اور اسے ہر دفعہ 5 ملی لیٹر

پینے کے لیے کہا اور اس ڈھکن پر 1ml کا نشان بتایا۔

SCENT

1) آپ ذیل کی کوئی اشیا میں لیٹر اور کوئی اشیا لیٹر میں لیتے ہیں درج کیجئے۔

ملی لیٹر / لیٹر	اشیا
	دودھ
	کھوپرے کا تیل
	مشروب
	شیپو
	دوائی ٹانک

ایک ہزار ملی لیٹر سے 1 لیٹر بنتا ہے۔



نازیہ نے ایک لیٹر پانی کی ایک خالی بوتل اور ایک 250 ملی لیٹر تیل کی خالی بوتل لیا۔
اس نے کھوپرے کے تیل کی بوتل کو پانی سے مکمل بھر کر پانی کے بوتل میں انڈیل دیا۔



پھر دوبارہ اس نے کھوپرے کے تیل کی بوتل کو پانی سے بھر کر پانی کی بوتل میں ڈال دیا۔






اس طرح اس نے اور دو مرتبہ کھوپرے کے تیل کی بوتل کو پانی سے بھر کر پانی کی بوتل میں ڈال دیا جس سے ایک لیٹر کی بوتل کامل طور پر بھر گئی۔

$$250\text{ml} + 250\text{ml} + 250\text{ml} + 250\text{ml} = 1000\text{ml}$$

یہ کیجئے

ایک لیٹر کے لیے حسب ذیل کی کتنی تعداد درکار ہوگی؟



مشغل


مختلف گنجائش والی تین بوتلیں لیجئے اور اندازہ لگائیے کہ ان میں سے ہر قسم کی بوتل کتنے مرتبہ بھرنے سے ایک لیٹر کے مساوی ہوگا؟
اندازہ کتنا درست ہے معلوم کرنے کے لیے ہر بوتل سے ایک لیٹر کی بوتل میں پانی بھر کر مشاہدہ کیجئے۔

آپ کی پیمائش	آپ کا اندازہ
	بوتل - 1
	بوتل - 2
	بوتل - 3



(a) اگر دو چھوٹی بوتلوں سے ایک لیٹر کی بوتل مکمل بھر جائے تو ہر چھوٹی بوتل کی گنجائش کیا ہوگی؟

(b) اگر چار چھوٹی بوتلوں سے ایک لیٹر کی بوتل بھر جائے تو یہ چھوٹی بوتل کی گنجائش کیا ہوگی؟



کوشش کیجئے

1) خالی جگہوں کو پر کرتے ہوئے انھیں ایک لیٹر کے مساوی بنائیے۔

$$1 \text{ لیٹر} = \underline{\quad} + 500 \text{ ml} \quad (\text{a})$$

$$1 \text{ لیٹر} = \underline{\quad} + 750 \text{ ml} \quad (\text{b})$$

$$1 \text{ لیٹر} = \underline{\quad} + 900 \text{ ml} \quad (\text{c})$$

$$1 \text{ لیٹر} = 500 \text{ ml} \times \underline{\quad} \quad (\text{d})$$

$$1 \text{ لیٹر} = 250 \text{ ml} \times \underline{\quad} \quad (\text{e})$$

پانی کی بچت کیجئے!



کیا آپ کے گھر، اسکول یا اطراف میں پانے جانے والے کسی نل سے پانی ٹپکتا رہتا ہے؟

اس نل کے نیچے ایک لیٹر کی خالی بوتل رکھ کر معلوم کیجئے کہ ایک گھنٹے میں اس میں کتنا پانی بھرتا ہے۔

(a) اگر نل سے اسی طرح دن بھر پانی ٹپکتا رہے تو کتنا پانی ضائع ہو گا؟

(b) اگر نل سے اسی طرح ایک ہفتہ پانی ٹپکتا رہے تو کتنا پانی ضائع ہو گا؟

مشق

(1) ذیل کی خالی جگہوں کو پر کیجئے

$$3 \text{ لیٹر} = \underline{\quad} \text{ ملی لیٹر} \quad (\text{a})$$

$$7 \text{ لیٹر} = \underline{\quad} \text{ ملی لیٹر} \quad (\text{b})$$

$$8500 \text{ ml} = \underline{\quad} \text{ لیٹر} \quad (\text{c})$$

$$5250 \text{ ml} = \underline{\quad} \text{ لیٹر} \quad (\text{d})$$

$$9750 \text{ ml} = \underline{\quad} \text{ لیٹر} \quad (\text{e})$$

(2) ذیل کے بولوں میں پانی کی جملہ گنجائش کتنی ہے؟



(3) شاہدہ کی گائے ہر دن 15 لیٹر دودھ پیتی ہے۔ اگر شاہدہ 500 ملی لیٹر دودھ میں استعمال کرتی ہے تو وہ کتنے لیٹر دودھ بازار میں فروخت کر سکتی ہے؟

(4) ایک اسکول میں پانی کی ٹانکی کی گنجائش 500 لیٹر ہے۔ اسکول میں ایک دن میں 375 لیٹر پانی استعمال ہوتا ہے۔ بتائیے کہ اگلے دن کے لیے کتنے لیٹر پانی بچتا ہے؟ اگر اسکول میں دوسرا دن پانی کی ٹانکی کو مکمل طور پر بھرنا ہو تو اس کے لئے کتنے لیٹر پانی درکار ہوگا۔

(5) خالد روز آنہ 250 ملی لیٹر اور یشماس 500 ملی لیٹر دودھ پیتے ہیں۔ اگر دونوں ہر دن اسی مقدار میں دودھ پیتے ہیں تو بتائیے کہ 4 دنوں میں وہ کتنے لیٹر دودھ پیتیں گے؟ اور 7 دنوں میں کتنے لیٹر دودھ پیتیں گے؟

(6) آپ ہر دن کتنا پانی پیتے ہیں؟ کتنا دودھ پیتے ہیں؟ کتنا چائے پیتے ہیں؟ کتنا شربت پیتے ہیں؟ اگر 4 گلاس مائع کی مقدار ایک لیٹر کے مساوی ہو تو بتائیے کہ ایک دن میں آپ کتنے لیٹر مائع استعمال کرتے ہیں؟ ایک مہینہ میں اس کی مقدار کیا ہوگی؟ سلمی 2 لیٹر مشروب کو 200 ملی لیٹر کے گلاسوں میں انڈیل رہی ہے۔ بتائیے کہ اسے کتنا گلاسون کی ضرورت ہوگی؟

(7) عاششہ کی دو سالہ بیٹی بیمار ہے۔ ڈاکٹر نے عاششہ کی بیٹی کو دن میں 3 مرتبہ 3 ملی لیٹر ٹانک دینے کے لیے کہا۔ اور کہا کہ دوا کا استعمال 7 دن تک جاری رکھیں۔


(a) عاششہ کی بیٹی 7 دنوں میں کتنا ملی لیٹر دوائے گی؟

(b) اگر دوائی کی بول 100 ملی لیٹر کی ہو تو 7 دن کے بعد کتنا ملی لیٹر دوائی میں بچ جائے گی؟

(9) ایک دوائی کی بول میں 60 ملی لیٹر دوائے ہے تو بتائیے کہ اسی 15 بولوں میں کتنا دوا ہوگی؟

(10) مظہر کی ایک چائے کی دکان ہے۔ وہ ایک پیالی چائے کے لیے 20 ملی لیٹر دودھ استعمال کرتا ہے۔ اگر وہ دن میں 50 پیالی چائے بچتا ہے تو بتائیے کہ وہ کتنا دودھ استعمال کرتا ہے؟

(11) ایک دکاندار اپنی دکان میں مختلف جماعت کے ٹیل کی بوتلیں رکھتا ہے۔ وہ دن میں 60 بوتلیں بیچتا ہے۔ جس کی تفصیل ذیل میں دی گئی ہے۔



بوتل کی گنجائش	روزانہ کی فروخت
200ml	20 بوتل
500ml	30 بوتل
100ml	10 بوتل

ایک دن میں دکاندار کتنا ٹیل بچتا ہے؟

(12) عامر اور سلمی اپنے دو بچوں کے ساتھ عادل آباد میں رہتے ہیں۔ ایک دن میں اس خاندان کی جانب سے استعمال کیے جانے والے پانی کی تفصیلات ذیل میں دی گئی ہیں۔

مقدار لیٹر میں	استعمال
15 لیٹر	پکوان اور پینے کے لیے
20 لیٹر	برتن دھونے کے لیے
40 لیٹر	کپڑے دھونے کے لیے
60 لیٹر	نہانے کے لیے

(a) یہ خاندان روزانہ کتنے لیٹر پانی استعمال کرتا ہے؟

(b) اندازہ لگائیے کہ آپ کا خاندان دن بھر میں کتنے لیٹر پانی استعمال کرتا ہے؟ ذیل کی جدول میں لکھیے۔

لیٹر	استعمال
	پینے اور پکوان کے لیے
	برتن دھونے کے لیے
	کپڑے دھونے کے لیے
	نہانے کے لیے

ٹکٹک چلتی گھڑی

ایک پھول کی تصویر بنانے کے لیے آپ کو کتنا وقت لگے گا؟ نہانے کے لیے آپ کتنا وقت لیتے ہیں؟ آپ مدرسہ میں کتنا وقت گزارتے ہیں؟ ٹوکری بنانے والا ایک ٹوکری کی بنائی کے لیے کتنا وقت لیتا ہے؟ بڑھتی ایک کرسی کو بنانے کے لیے کتنا وقت لیتا ہے؟ ٹیلر ایک کرتاسینے کے لیے کتنا وقت لیتا ہے؟




مختلف کاموں کے لیے الگ الگ وقت درکار ہوتا ہے۔ مختلف کاموں کے بارے میں سوچیے اور ذیل کے جدول کو پرکھیے۔

وہ مشغله جس کے لیے چند منٹ درکار ہوتے ہیں	وہ مشغله جس کے لیے چند دن درکار ہوتے ہیں	وہ مشغله جس کے لیے چند ہفتے درکار ہوتے ہیں	وہ مشغله جس کے لیے چند مہینے درکار ہوتے ہیں
چاول کی کاشت	جھونپڑی تعمیر کرنا	اسکول میں پڑھنا	نہانا

(a) پلک جھپکنے کے لیے آپ کو کتنا وقت درکار ہوتا ہے؟ دوسرے ایسے کاموں کے بارے میں سوچیے جن کے لیے ایک منٹ سے بھی کم وقت لگتا ہے۔

سوریا آج بہت خوش ہے۔ آج امتحانات کا آخری دن ہے اور اس کے والدین نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ آج شام فلم دیکھنے جائیں گے۔

(a) وہ اسکول _____ بجے پہنچتا ہے۔



(b) اس نے _____ بجے امتحان لکھنا شروع کیا۔



امتحان لکھنے کے لیے اس کے پاس دو گھنٹوں کا وقت تھا۔

امتحان لکھنے کے دوران وہ کمرہ جماعت میں موجود گھری کی طرف دیکھا کہ ابھی کتنا وقت بچا ہے۔

(c) سوریا کے پاس کتنا وقت تھا؟ _____





سوریا نے 12 بجے سے چند منٹ قبل اپنا پرچہ تکمیل کر لیا اور وہ اپنے گھر کے لیے روانہ ہوا۔ اسکول سے واپس آنے کے بعد وہ گھری دیکھنے لگا۔

(d) گھری میں اب کیا وقت ہو رہا ہے؟ _____




(e) سوریا نے طے کیا کہ وہ 3 گھنٹے بعد سینما دیکھنے جائے گا۔ کتنے بجے سوریا اپنے گھر سے نکلے گا؟ ذیل کی کوئی گھری اس وقت کو بتلارہی ہے؟ اس پر دائرہ بنائیے۔





1. گھری میں کیا وقت ہو رہا ہے؟
 (a) 5
 (b) 4
 (c) 6
2. گھنٹے پہلے کیا وقت تھا؟
 (a) 1
 (b) 2
 (c) 3
3. گھنٹے بعد کیا وقت ہو گا؟
 (a) 7
 (b) 8
 (c) 9
4. گھنٹے بعد کیا وقت ہو گا؟
 (a) 1
 (b) 2
 (c) 3



بنی کی صبح
بنی کو اسکول جانے میں دیر ہو گئی۔ نہانے کی جلدی میں وہ گھری کی طرف دیکھتا ہے۔ گھری میں کیا وقت ہو رہا ہے؟



نہانے کے بعد بنی نے دوبارہ گھری کی طرف نظر ڈالی اور دیکھتا ہے کہ گھری کا بڑا کانٹا 3 پر آچکا ہے۔ اس وقت بنی کو اسکول ٹیکر کا بتایا تیریقہ یاد آتا ہے کہ گھری کس طرح دیکھی جاتی ہے۔



گھری کا چھوٹا کانٹا گھنٹے کو بتلاتا ہے اور بڑا کانٹامنٹ کو، جب بڑا کانٹا 1 پر ہواں کا مطلب 5 منٹ ہو گئے۔ اگر بڑا کانٹا 2 پر ہواں کا مطلب 10 منٹ ہوئے۔ اگر بڑا کانٹا 3 پر ہوتا تو 15 منٹ ہوئے، اگر بڑا کانٹا 4 پر ہوتا تو اس کا مطلب 20 منٹ ہوئے اس طرح وقت آگے بڑھتا جائے گا۔ اگر بڑا کانٹا 7 پر ہوتا ہے تو بتلائیے کہ کتنے منٹ گزر چکے ہیں؟ بڑے کانٹے کو ایک گردش مکمل کرنے کے لیے کتنے منٹ درکار ہوتے ہیں؟ بتلائیے کہ ایک گھنٹے میں کتنے منٹ ہوتے ہیں؟



بُنٹی: اب وقت 8 بجکر 15 منٹ ہو رہے ہیں۔ مجھے جلدی کرنی چاہئے۔




وہ تیزی سے کپڑے پہن لیتا ہے اور جلدی جلدی ماں کی دی ہوئی روٹی کھاتا ہے۔ گھر سے نکلتے وقت وہ دوبارہ گھڑی کی جانب دیکھتا ہے۔

اب آٹھ بجکر پینتالیس منٹ ہو رہے ہیں! میں اسکول وقت پر نہیں پہنچ پاؤں گا۔
بُنٹی اسکول کو 15 منٹ دیر سے پہنچتا ہے۔ بُنٹی اسکول کس وقت پر پہنچا ہو گا؟ (a)



یہ کیجئے

ذیل کی کوئی گھڑیاں صحیح وقت بتلارہی ہیں؟ ان پر دائرة بنائیے۔




2:05 (a)




4:15 (b)




7:25 (c)



بتلائے ان گھنٹوں میں کیا وقت ہو رہا ہے۔ (2)



دیئے گئے وقت کو گھنٹوں پر ظاہر کیجئے۔ (3)



کوشش کیجئے

گھنٹے گزرنے پر کیا گھنٹے کا کاٹا آگے بڑھتا ہے؟ گھنٹے کے کاٹے کو ایک عدد سے دوسرے عدد تک پہنچنے کے لیے کتنے منٹ لگتے ہیں؟ ذیل میں دیے گئے اوقات کے درمیان کس وقت پر گھنٹی کا منٹ کا کاٹا اور گھنٹے کاٹا ایک دوسرے پر منطبق ہوتے ہیں۔

- 6 بجے اور 7 بجے (a)
- 9 بجے اور 10 بجے (b)
- 3 بجے اور 4 بجے (c)
- 12 بجے اور 1 بجے (d)

اب ہم وقت دیکھنا سیکھ چکے ہیں۔ آئیے کیلینڈر کے بارے میں جانیں گے۔

ذکیرہ ٹپھر جماعت چہارم کے پچوں سے اس سال 2013 کے کیلینڈر کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہیں۔ وہ جماعت میں ہر بچے کو سال میں آنے والی عیدوں اور تہواروں کی فہرست دیتی ہیں جس دن اسکول کو تعطیل ہوتی ہے۔

جماعت میں لگے کیلینڈر کو دیکھ کر طلباء سے یہ بتانے کے لیے کہتی ہیں کیا دی گئی تعطیلات کام کے دن میں ہیں یا اتوار کے دن۔ کیلینڈر میں عید و تہوار کے دنوں پر دائڑہ بنائیے۔ ذیل میں دی گئی خالی جگہ پر ہفتہ کا کونسا دن ہے لکھیے؟ کیا کوئی عید یا تہوار اتوار کے دن آ رہے ہیں لکھیے۔

دن	تاریخ	عید و تہوار
	13 نومبر	دیوالی
	14 رب جنوری	سنکرانٹی
	17 نومبر	وجہنے دشی
	25 رب ڈسمبر	کرسمس
	9 اگست	عید الفطر
	27 مارچ	ہولی

(b) اپنی نوٹ بک میں عید و تہوار کی فہرست اس ترتیب میں لکھیئے جس ترتیب سے وہ آتی ہیں۔

کلینڈر 2013

جنوری

S	M	T	W	Th	F	Sa
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

اپریل

S	M	T	W	Th	F	Sa
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

جولائی

S	M	T	W	Th	F	Sa
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

اکتوبر

S	M	T	W	Th	F	Sa
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

نومبر

فروری

S	M	T	W	Th	F	Sa
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28		

مئی

S	M	T	W	Th	F	Sa
				1	2	3
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

مارچ

S	M	T	W	Th	F	Sa
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

جون

S	M	T	W	Th	F	Sa
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

ستمبر

S	M	T	W	Th	F	Sa
					1	2
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

اگسٹ

S	M	T	W	Th	F	Sa
	1	2	3	4	5	6
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

دسمبر

S	M	T	W	Th	F	Sa
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

2013 کیلندر کے بارے میں ذکر یہ ٹچر مختلف سوالات کرتی ہیں۔ کیا آپ ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں؟

(a) ایک سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟

(b) ایک سال میں کتنے دن ہوتے ہیں معلوم کرنے کے لیے تمام مہینوں کے دنوں کو جمع کیجئے۔

(c) مئی کے بعد کونسا مہینہ آتا ہے؟

ڈسمبر سے پہلے کونسا مہینہ ہوتا ہے؟

(d) مارچ کے مہینے میں کتنے می历ات ہیں؟

وہ کونسی تواریخ پر آرہے ہیں؟

(e) مارچ کے مہینے میں کتنے اتوار ہیں؟

وہ کونسی تواریخ پر آرہے ہیں؟

(f) کیلندر میں ذیل کی تاریخوں پر دائرہ بنائیے اور وہ کونسے دن آرہے ہیں لکھیجئے۔

(i) یوم جمہوریہ 26 جنوری

(ii) یوم اطفال 14 نومبر

(iii) یوم آزادی 15 گست

(g) اگر 31 دسمبر کو پیر ہے تو بتلائیے آنے والے سال جنوری کی پہلی تاریخ کو کونسا دن ہوگا؟ آنے والے پیر کو

کونسی تاریخ ہوگی؟

(h) کیا ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو ایک ہی دن ہوتا ہے؟

(i) دیا گیا کیلندر کس سال کا ہے؟

(ii) آنے والے سال کونسا ہے؟ اس سال سے پہلے کونسا سال تھا؟

(iii) آپ کس سال جماعت اول میں تھے؟

(j) فروری 2012 کے کیلندر کو پڑھیجئے۔

(i) فروری 2012 میں کتنے دن ہیں؟

(ii) فروری 2013 میں کتنے دن ہیں؟

(iii) فروری 2014 میں کتنے دن ہیں؟

(iv) آئندہ کس سال فروری کے مہینے میں 29 دن ہوں گے؟

2012ء سال کبیسہ کہلاتا ہے کیونکہ اس سال فروری کے مہینے میں 28 دن کے بجائے 29 دن تھے۔ سال کبیسہ 4 سال میں

ایک مرتبہ آتا ہے۔

فروری - 2012

S	M	T	W	Th	F	Sa
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29			

مئی 2014

S	M	T	W	Th	F	Sa
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

مئی 2014

- اس مہینے میں کتنے دن ہیں؟ _____ (a)
- اس مہینے میں کتنے جمعرات ہیں؟ _____ (b)
- اس مہینے میں کتنے اتوار ہیں؟ _____ (c)
- کیا ایسا کوئی مہینہ ممکن ہے جس میں 6 پیر ہیں؟ کیوں؟ _____ (d)

جون 2014

S	M	T	W	Th	F	Sa


آنے والے مہینے کا کیلینڈر بنائیے۔ (e)

مشق

- (1) جاوید 9 سال کا ہے اس کے والد کی عمر اس کی عمر کا 4 گنا ہے تب بتائیے جاوید کے والد کی عمر کیا ہے؟
- (2) عائشہ شام 15:15 بجے اپنی سہیلی کے گھر گئی اور شام 10:30 بجے گھروال پس آئی تب اس نے اپنی سہیلی کے ساتھ کتنا وقت کھیل میں گزارا؟
- (3) جلال صبح 7:15 بجے کھیت گیا اور دو پھر 1:45 بجے وہ گھروال پس آیا۔ تب بتائیے جلال کھیت میں کتنی دیر رہا؟
- (4) سنتوش کے گھروالے اور اس کے دوست صبح 10:30 بجے سے شام 4:20 تک تفریح پر تھے۔ تب انھوں نے تفریح میں کتنا وقت گزارا؟
- (5) ذیل کی گھڑیوں کے نیچے دی گئی خالی جگہ میں وقت لکھیے۔



مساوی حصوں میں بانٹنا



امی نے پلیٹ میں 12 اڈلیاں رکھیں۔




امی: شمینہ اور علی دو نوں آپس میں اڈلیاں مساوی بانٹ لو اور اپنے ناشتہ کرلو۔


شمینہ اور علی نے اس طرح آپس میں بانٹ لیا۔

کیا دو نوں اڈلیاں برابر تقسیم کیں؟


کیا ب آپ 8 اڈلیاں، 4 بچوں میں مساوی بانٹ سکتے ہو؟




9 پنسل کو 3 بچوں میں مساوی طور پر بانٹئیے۔



4 بچوں میں 16 کچے (کانچ کی گولیاں) کو تقسیم کیجیے۔



ریاضی کے ٹپچر، آج تقسیم کرواری ہیں۔ وہ تختہ سیاہ پر 12 پنسل اتارتی ہیں اور شمینہ سے کہتی ہیں کہ 12 پنسل کو 3 افراد میں تقسیم کریں۔
شمینہ دائروں کو اتارتے ہوئے تقسیم کرتی ہے۔



شمینہ کہتی ہے کہ 12 پنسل کو 3 لوگوں میں مساوی بانٹنے پر ہر ایک فرد کو 4 پنسل ملیں گے۔

شمینہ کے ہم جماعت: آپ کا حل صحیح ہے۔ 12 کو 3 سے تقسیم کیا جائے تو وہ 4 کے مساوی ہوتا ہے۔

$$\frac{12}{3} = 4 \text{ اور اس طرح بھی}$$

یہ کیجیے

(1) شمینہ کے ساتھیوں نے اپر جس طرح لکھا ہے ذیل کے بیانات کو بھی اُسی طرح سے لکھئے۔

لتا 6 لڑ و بناتی ہے اور ان کو اپنے 3 بچوں میں مساوی تقسیم کرتی ہے۔ (a)

ٹپچر 16 نوٹ بکس کو 8 بچوں میں مساوی بانٹتی ہیں۔ (b)

امی 10 روپیوں کو خاندان کے 5 افراد میں مساوی تقسیم کرتی ہیں۔ (c)

(2) ذیل کو بیانات کی شکل میں لکھیجئے

(a) $\frac{4}{2}$

(b) $\frac{14}{2}$

(c) $\frac{15}{3}$


(d) $\frac{16}{2}$

(e) $\frac{18}{6}$


روٹی کی مساوی تقسیم

ٹپھر نے بچوں سے پوچھا کہ


آپ ایک روٹی کو 2 افراد میں کس طرح مساوی طور پر تقسیم کریں گے۔




بچوں نے اپنی نوٹ بک میں روٹی کی شکلیں بنائیں اور ٹپھر کو دکھایا۔




یاسمن



عائشہ



کریم



جنید

روٹی کو دو مساوی حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔
جنید کیا آپ کی شکل میں روٹی کے دو حصے مساوی ہیں؟ صحیح کیجیے۔
آپ سب بتائیے کہ ہر ایک فرد کو تھی روٹی ملے گی؟





یاسمن

یاسمن : ہر ایک فرد کو آدھی روٹی ملے گی

ٹپھر : ہاں، ”آدھا“ کا مطلب دو مساوی حصوں میں سے ایک حصہ۔ اس کو اس طرح لکھا جاتا ہے۔

$$1 \div 2 = \frac{1}{2}$$






ٹپچر: ایک روٹی کو 4 افراد میں مساوی تقسیم کیجیے۔
یا سمین ان پنی نوٹ بک میں اس طرح شکل بناتی ہے۔


وہ ٹپچر کو بتاتی ہے: چار مساوی حصوں میں سے ہر ایک فرد کو روٹی کا ایک حصہ ملے گا۔ یہ روٹی کا ایک چوتھائی حصہ کہلاتا ہے۔

ٹپچر: صحیح ہے، ہم اس طرح لکھتے ہیں۔



$$\text{لہذا: } 1 \div 4 = \frac{1}{4}$$


ٹپچر: کیلئے 3 روٹیوں کو 2 افراد میں مساوی تقسیم کیا جاسکتا ہے؟
یا سمین اس طرح تقسیم کرتی ہے۔



یا سمین: جب میں 3 روٹیوں کو 2 افراد میں بانٹتی ہوں تو ہر ایک فرد کو ایک مکمل روٹی اور ایک آدھی روٹی ملے گی۔
میں اس طرح لکھ سکتی ہوں

$$\frac{3}{2} = 1 + \frac{1}{2}$$

اب آپ 5 روٹیوں کو 2 افراد میں مساوی تقسیم کیجیے؟




(a) ہر ایک فرد کو تتنی مکمل روٹیاں ملیں گی؟

(b) ہر ایک فرد کو تتنی آدھی روٹیاں ملیں گی؟

$$\text{لہذا } \frac{5}{2} = \underline{\quad} + \underline{\quad}$$

ان 5 روٹیوں کو 4 افراد میں تقسیم کرنے کی کوشش کیجیے۔



(a) ہر ایک کو تتنی مکمل روٹیاں ملیں گی؟

(b) ہر ایک کو تتنی ایک چوتھائی روٹیاں ملیں گی؟

$$\frac{5}{4} = \underline{\quad} + \underline{\quad} \text{ لہذا }$$

آئیے ایک تر بوز کو مساوی حصوں میں تقسیم کریں۔

شمینہ کو تر بوز پسند ہے۔ اس کی ماں بازار سے ایک تر بوز لاتی ہے۔ وہ اس کو دو مساوی حصوں میں کاٹنے ہے وہ ایک حصہ شمینہ کو دیتی ہے اور دوسرا حصہ علی کو




(a) بتائیے شمینہ کو تر بوز کا کتنا حصہ ملا؟


(b) بتائیے علی کو تر بوز کا کتنا حصہ ملا؟

(c) اگر مزید 2 افراد ہوتے جن کو تر بوز دینا ہوتا تب تر بوز کے

لکھے کرنے پڑتے تب ہر آدمی کو کتنا تر بوز ملتا؟



اب، اس کیک کو چار افراد میں مساوی تقسیم کیجیے۔



(a) ایک کیک کو چار مساوی حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ اس کو اس طرح $4 \div 1$ لکھا جاتا ہے۔ اور اس طرح بھی لکھا جاستا ہے۔

(b) کیک کو تقسیم کرنے پر ہر فرد کو کیک کا کتنا حصہ ملے گا؟

(c) اگر ایک آدمی کیک کے 4 حصوں میں سے 2 حصے کھاتا ہے تب بتائیے اس نے کتنا کیک کھایا؟

(d) کیک کے اس حصے کو سایہ دار بنائے جو کیک کے $\frac{1}{2}$ کے مساوی ہو؟

(e) اگر ایک آدمی کیک کے 4 حصوں میں سے 3 حصے کھاتا ہے تب اس نے کیک کا کتنا حصہ کھایا؟

کوشش کیجیے


1) کاغذ کا ایک ٹکڑا لیجیے۔ اس کو ممکنہ طریقوں سے نصف (آدھا) کیجیے۔

کاغذ کا دوسرا ٹکڑا لیجیے اور ممکنہ طریقوں سے اس کو چار مساوی حصوں میں تقسیم کیجیے




1) دی گئی شکلوں کو مساوی حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ہر ایک شکل کا کتنا حصہ سایہ دار بنایا گیا ہے؟ آپ کے لیے ایک مثال دی گئی ہے


(a)




(b)




(c)



(d)



(e)




نیچے لکھے گئے حصے کو شکل میں بتائیے اور نگ بھریے۔ آپ کے لیے ایک نمونہ بتایا گیا ہے۔ (2)


(a)




(b)



(c)



(d)




(e)




(f)




(3) نیچے دی گئی شکلوں کے $\frac{1}{2}$ حصے میں رنگ بھرئے۔




(4) نیچے دی گئی شکلوں کے $\frac{1}{4}$ حصے کو رنگ بنائیے۔





1) سوچیے کہ اس مستطیل کو اور کتنے طریقوں سے دو مساوی حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کو کیجیے۔



2) سوچیے کہ اس مستطیل کو اور کتنے طریقوں سے چار مساوی حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اور کیجیے۔


رانی کا برتھڈ

رانی اپنے یوم پیدائش پر 40 چاکلیٹس لے آئی۔

(a) اس نے چاکلیٹ کا $\frac{1}{2}$ حصہ اپنی کلاس میں باٹا۔

رانی نے کلاس میں کتنے چاکلیٹ قسم کیے؟

(b) اس نے چاکلیٹوں کا $\frac{1}{4}$ حصہ اپنے اساتذہ میں باٹا۔



اس نے اپنے اساتذہ میں کتنے چاکلیٹ تقسیم کیے؟

الماری کا کتنا حصہ کتابوں سے بھرا ہوا ہے؟

(a) الماری کا کتنا حصہ کتابوں سے بھرا ہوا ہے؟


(b) الماری کا کتنا حصہ خالی ہے؟

بیکٹ پاکٹ کا کتنا حصہ کھایا گیا ہے؟

(a) اگر جرہا اور سمیرہ دونوں نے ملکر 8 بیکٹ کھائے ہیں تو

بتائیے کہ انہوں نے بیکٹ کے پاکٹ کا کتنا حصہ کھایا؟

(b) بیکٹ کے پاکٹ کا کتنا حصہ بچا ہے؟




مشق




(1) روپینہ نے ایک درجن انڈے خریدے اور انڈوں کا $\frac{1}{2}$ حصہ آمیٹ بنانے کے لیے استعمال کیا۔ اس نے کتنے انڈے استعمال کیتے؟ (ایک درجن = 12)

(2) لیلہ کے پاس 12 موز ہیں اس نے اس کا ایک چوتھائی حصہ کھایا۔ بتائیے اس نے کتنے موز کھائے؟



(3) اسلم کے پاس 8 مرغیاں ہیں۔ اس نے مرغیوں کا $\frac{3}{4}$ حصہ فروخت کیا۔ بتائیے اس نے کتنی مرغیوں کو فروخت کیا۔



(4) مشاق نے ایک دن میں 100 روپے کمائے۔ اس نے روپیوں کا $\frac{1}{2}$ حصہ کھانے پر خرچ کیا تب بتائیے کہ اس نے کتنی رقم خرچ کی؟

(5) ایک سبق میں 20 صفحات ہیں۔ غوشیہ سبق کا $\frac{1}{5}$ حصہ پڑھتی ہے تب بتائیے کہ غوشیہ نے کتنے صفحات پڑھے؟

کوشش کیجیے

(1) آپ کے کمرہ جماعت کے بلیک بورڈ کا کتنا حصہ باغ خالی ہے؟

(2) آپ کی جماعت میں کتنے طلباء ہیں؟ کتنا حصہ لڑکوں کا ہے؟ اور کتنا حصہ لڑکیوں کا ہے؟

(3) آج جماعت میں طلباء کی تعداد کا کتنا حصہ حاضر ہے؟

(4) آج آپ کے مدرسہ کے اساتذہ کی تعداد کا کتنا حصہ حاضر ہے؟

(5) اوپر دیئے گئے سوالات کی طرح مزید 5 سوالات تیار کیجیے۔

اسمارٹ جدول Smart Tables

عشریہ ٹپر نے جسٹر میں جماعت چہارم کے طلباء کے گریڈ درج کیتے ہیں۔

A	پراساد	B	فاطمہ	C	ارشد	A	عقلیل
B	محمود	A	اسما	B	شمیم	A	رحیم
B	اسلم	B	انجم	B	نسیم	C	گوپی
A	فرح	C	بربان	A	کوبل	B	امجد
B	جاوید	B	احمد	C	رمیش	A	محسن
B	عامر	A	ایوب	A	آزاد	B	عدنان
C	روجا	B	سنیل	B	عشرت	A	کرشنا

اسکول کے صدر مدرس نے عشریہ ٹپر سے کہا کہ گریڈ A، C حاصل کرنے والے طلباء کی تعداد بتائیں۔ یہ معلوم کرنے کے لیے عشریہ ٹپر نے ایک جدول تیار کیا اور فہرست کے مطابق ہر گریڈ کے آگے ایک لگتی کا نشان لگایا۔ یہاں انہوں نے عقلیل، رحیم، گوپی اور امجد کو ان کے گریڈ کے مطابق نشان لگایا ہے۔ کیا آپ جدول کی تکمیل میں اپنے ٹپر کی مدد کر سکتے ہیں۔

طلبا کی تعداد	لگتی کے نشانات	گریڈ
	II	A
	I	B
	I	C

کتنے بچوں نے گریڈ A حاصل کیا؟ (a)



کتنے بچوں نے B گریڈ حاصل کیا؟ (b)

کتنے بچوں نے C گریڈ حاصل کیا؟ (c)

آپ کا پسندیدہ کھیل کونسا ہے؟

آپ کی جماعت میں موجود تمام بچوں کی فہرست بنائیے۔ ہر بچے کا پسندیدہ کھیل معلوم کیجیے اور ان کے نام کے آگے درج کیجیے۔ مثال کے طور اعجاز۔ فٹ بال۔

ان معلومات کو استعمال کرتے ہوئے ذیل کے جدول کو مکمل کیجیے۔




جملہ	گتنی کے نشانات	کھیل کا نام



آپ کی جماعت کے بچوں کا سب سے زیادہ پسندیدہ کھیل کونسا ہے؟ (a)

آپ کی جماعت کے بچوں کا سب سے کم پسندیدہ کھیل کونسا ہے؟ (b)



آپ کے اطراف کتنے بڑے خاندان رہتے ہیں۔

آپ اپنے محلے کے 20 مکانات کو جائیے اور ہر مکان میں کتنے افراد رہتے ہیں معلوم کیجیے۔ ذیل کے جدول کو مکمل کیجیے۔

خاندان کی تعداد	گنتی کے نشانات	خاندان کا سائز
		7 افراد یا سے زیادہ
		6 افراد
		5 افراد
		4 افراد
		3 افراد
		2 افراد
		1 فرد

(a) ان معلومات سے آپ کس نتیجہ پر پہنچتے ہیں؟


مکانات کے اقسام

کسی گاؤں میں 3 قسم کے مکانات ہیں ذیل میں ان کی تفصیلات دی گئی ہیں۔ ان تفصیلات کے مطابق گنتی کے نشانات کے ذریعہ جدول کی تکمیل کیجیے۔

مکانات کی تعداد	گنتی کے نشانات	مکانات کے اقسام
		    
		       
		       

تصویری جدول اور چارٹس
عبداللہ کی کھلونوں کی دکان

عبداللہ کی کھلونوں کی ایک چھوٹی دکان ہے۔ مئی کے مہینے کی شروعات میں اس کے پاس ہر قسم کے $10^{'}$ 10 کھلو نے تھے۔ مہینے کے ختم پر موجود کھلونوں کی تعداد کو ذیل کے تصویری جدول میں بتایا گیا ہے۔



- (a) مہینے کے اختتام پر کونسے کھلونوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے؟
- (b) مہینے کے اختتام پر کونسے کھلو نے کا ذخیرہ سب سے کم ہے؟
- (c) مہینے کی شروعات میں ہر قسم کے $10^{'}$ 10 کھلو نے تھے۔ تصویری جدول میں بتائی گئی تعداد کے مطابق کیا آپ بتاسکتے ہیں کہ اس مہینے میں کونسا کھلو نا سب سے زیادہ فروخت کیا گیا؟
- (d) اور کونسے کھلو نے ہیں جن کو پچھوں نے زیادہ پست کیا؟

آؤ مدد کریں!

شیخ پیٹ پر انگری اسکول کے جماعت چہارم کے طلباء کو ایک یتیم خانہ کی مدد کے لیے ایک ہفتہ میں 300 روپے جمع کرنے کا نشانہ دیا گیا ہے۔ بچوں نے اس مقصد کے لئے جن سے ملاقات کی ان سے گزارش کی کہ ہر شخص 5 روپے عطا یہ دے۔
یہ گئے گئے تصویری جدول میں ہفتہ کے ہر دن جمع کی گئی رقم کو بتایا گیا۔

جملہ رقم	وصول کردہ رقم	دان
		اتوار
		پیور
		منگل
		چہارشنبہ
		جمعرات
		جمعہ
		ہفتہ

(a) کس دن سب سے زیادہ رقم جمع ہوئی؟

(b) کونسے دنوں میں انہوں نے مساوی رقم اکٹھا کی؟

(c) کیا جماعت نے اپنا شانہ کو پورا کیا؟

دھان کے تحلیل

عارف ایک کسان ہے۔ اس نے گذشتہ 4 سال سے اپنے کھیتوں میں ہوتی دھان کی پیداوار کی اطلاعات کو درج کر کے رکھا ہے۔ تصویری جدول میں ہر ایک تھیلا دھان 50 کلو کو ظاہر کرتا ہے۔

دھان کے تحلیل



(a) دھان کی سب سے زیادہ پیداوار کس سال ہوتی؟ اور کتنی؟


(b) کس سال کی پیداوار سال 2009 کی پیداوار کی دو گنی ہے؟

(c) عارف کے کھیتوں کی دھان کی پیداوار میں گذشتہ چار سال سے مسلسل اضافہ ہوا ہے۔

کیا ہم اپر کے تصویری جدول سے یہ نتیجہ انداز کر سکتے ہیں؟

بَاڪَسْ چارٹ تیل کا ذخیرہ کتنا ہے؟

ایک تاجر مونگ پھلی، پالمو لین، سن فلاور، ناریل اور رائیس بران (چاول) کا تیل فروخت کرتا ہے۔ ہفتے کے اختتام پر تاجر کے پاس موجود تیل کے ذخیرہ کوڈیل کے بَاڪَسْ چارٹ میں دکھایا گیا ہے۔




- (a) ذخیرہ میں سب سے زیادہ تیل کونسا ہے؟
- (b) ذخیرہ میں سب سے کم تیل کونسا ہے؟
- (c) اگر ہفتہ کی شروعات میں مونگ پھلی کے تیل کے 30 پاکٹ ہوں تو اس ہفتہ میں کتنے پاکٹ فروخت کئے گئے؟
- (d) اگر ہفتہ کی شروعات میں سن فلاور تیل کے 20 پاکٹ ہوں تو اس ہفتہ میں کتنے فروخت کئے گئے؟

سرحدیں اور حدود

14

گولکنڈہ پر انگری اسکول کے طلباء یوم جمہوریہ کے موقع پر اپنے کمرہ جماعت کو سجانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے طے کیا کہ تختہ سیاہ کے کناروں پر سجاوٹی ربن چسپاں کریں۔



تختہ سیاہ کا احاطہ 6

میٹر ہے

ایک تختہ سیاہ کے لیے انہیں کتنی سجاوٹی ربن خریدنی ہوگی؟
طلبا نے تختہ سیاہ کے ہر ضلع کی پیمائش کی اور چاروں ضلعوں کی لمبائیوں کو مجموع کیا۔


$$2 \text{ m} + 2 \text{ m} + 1 \text{ m} + 1 \text{ m} = 6 \text{ m}$$

اس طرح انہیں 6 میٹر لمبی سجاوٹی ربن کی ضرورت پڑی۔ کیا انہوں نے صحیح کیا؟



کھیتوں کے اطراف بارہ لگانا:


روئی، رجیم اور جان دوست بیب۔ انہوں نے طے کیا اپنے کھیتوں کے اطراف بارہ لگانا۔



(a) تینوں نے بارہ لگانے کے لیے جملہ 100 میٹر تارخیا۔ کیا اتنا تاران کے کھیتوں کے اطراف بارہ لگانے کے لیے کافی ہوگا؟

کچھ
یہ

نیچے دیے گئے زمینی قطعوں کا احاطہ معلوم کیجئے۔



اپنے کمرہ جماعت کے احاطہ کا اندازہ لگائیے۔ اس کے بعد پیمائشی طب سے اس کی پیمائش کیجئے۔

کنارے اور لیس Borders and Laces

سلی لیس کی دکان پر اپنے دوپٹے کے لیے لیس خریدنے گئی۔ اس کو کتنی لیس کی ضرورت پڑے گی؟ (a)

2 m 50 cm

75 cm



(b) اگر ایک میٹر لیس کی قیمت 12 روپے ہو تو سلی دکاندار کو کتنے روپے ادا کرے گی؟


یشودھا اپنی نئی ساڑی کے اطراف مخصوص لیس لگانا چاہتی ہے۔ ساڑی کی لمبائی 5 میٹر 50 سمر اور اس کی چوڑائی ایک میٹر 50 سمر ہے۔

(a) یشودھا کو کتنی لیس خریدنے کی ضرورت ہے؟




(b) اگر ایک میٹر لیس کی قیمت 75 روپے ہو تو یشودھا دکاندار کو کتنے روپے ادا کرے گی؟


کوشش کیجئے




(1) اس مرلے کا احاطہ کیا ہے؟ _____




(b) اگر میں ایک سروالے مرلے کو ایک کنارے سے علیحدہ کرتا ہوں تو کیا مرلے کا احاطہ بدلتے گا؟ _____



(c) اگر میں چاروں کناروں پر ایسا ہی کروں تو کیا ہوگا؟ _____



(d) اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ _____




(2) اس میدان کے احاطے کی پیمائش کس طرح کی جاسکتی ہے؟ _____


(b) سیتا اور گیتا ایک دائرہ وی راستے پر دوڑ لگا رہے ہیں۔ سیتا اندر وی راستے پر اور گیتا بیرونی راستے پر دوڑ لگا رہی ہے۔ دونوں نے مختلف مقامات سے دوڑ شروع کی۔ کیا آپ اندازہ لگاسکتے ہیں، کیوں؟




(1) ذیل میں دی گئیں بنداشکال کے حاملے معلوم کیجئے۔



(2) ذیل میں رنگ اور رامو کے کھیتوں کی پیمائش دی گئی ہے۔ دونوں باڑھ لگانے کے لیے تا خریدنا چاہتے ہیں۔ کس کو زیادہ تارکی ضرورت ہوگی؟



(3) روی ہر روز باغ کے تین چکر لگاتا ہے۔ تب وہ ایک دن میں جملہ کتنا فاصلہ طے کرتا ہے؟



نصف - جو ایک جیسے نظر آتے ہیں




رانی اپنے گھر کے باہر رنگولی بنارہی تھی۔ اس کی ماں آئی اور یہ کہنے لگی کہ رانی یہ رنگولی چھوڑو اور باہر جا کر مجھے تھوڑی بلدی لادو۔ تمہاری بہن یہ رنگولی مکمل کرے گی۔
رانی کی بہن لتا نے رنگولی کا دوسرا نصف مکمل کیا۔




کیا دیگر طریقوں سے بھی اس رنگولی کو یکساں نظر آنے والے نصف حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔
اب لتا نے رانی سے کہا ”میں ایک نصف بناؤں گی اور تم اس کو مکمل کرو۔“
آئیے۔ رنگولی کی تکمیل میں رانی کی مدد کریں۔
(a) نامکمل حصہ پر آئینہ رکھیے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟






یہ کیجیے

ایک خط اس طرح کھینچنے کے جو حسب ذیل تصاویر کو یکساں نظر آنے والے نصف حصوں میں تقسیم کرے جیسا کہ پہلی تصویر میں بتایا گیا ہے۔ اس طرح تقسیم کرنے والے ایک سے زائد خطوط ہو سکتے ہیں۔





2) ایک خط کھینچنے جو نیچے دی گئی تصاویر کو یہاں نصف میں تقسیم کرتا ہو۔

اشارہ: آپ دیکھیں گے کہ تصویر کو ایک سے زائد طریقے سے تقسیم کیا جاسکتا ہے۔



3) کیا اعداد کو بھی ایک جیسے نصف حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے؟

حسب ذیل اعداد میں کن اعداد کو ایک جیسے نصف میں تقسیم کیا جاسکتا ہے؟ اور ساتھ ہی ایک خط کھینچنے جو ان اعداد کو ایک جیسے نصف حصوں میں تقسیم کرتا ہو۔ آپ کے لیے ایک مثال دی گئی ہے۔


$$\begin{array}{r}
 + \\
 1 \quad 3 \quad 2 \quad 8 \quad 5 \quad 6
 \end{array}$$

1) اپنے اطراف دیکھیے۔ وہ کوئی اشیا میں جن کو ایک جیسے نصف حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے بیان کیجئے۔

مشغله


مکھوٹے کی تیاری:

- آئیے اب ہم باٹھی کا مکھوٹا تیار کریں گے۔
- (1) کاغذ کا ایک ٹکڑا لیجئے۔ ایک خط کھنچنے جو اس کو نصف حصے میں تقسیم کرتا ہو۔
- (2) ایک جانب باٹھی کے چہرہ کا غارہ بنائیے جیسا کہ نیچے دکھلایا گیا ہے۔
- (3) کاغذ کو خط کے مطابق موڑیے۔
- (4) باٹھی کے چہرہ کے خاکے کو پیچھی سے کانٹیے۔
- (5) مرے ہوئے کاغذ کو کھولیئے۔ اس پر آنکھیں بنائیے۔
- (6) اس میں رنگ بھریے اور برینڈ باندھیے تاکہ اس کو مکھوٹے کی طرح استعمال کر سکیں۔



نمونے

آمنہ اور عائشہ میلے دیکھنے جا رہی ہیں۔ راستے میں وہ کئی مکانات کے سامنے سے گزرتے ہیں۔
آمنہ: عائشہ دیکھیتے ان مکانات کی سرحدی دیواروں پر کتنے خوبصورت نمونے یا نقش ہیں۔



سرحدی دیواروں کا کونسا حصہ دہرانے پر نمونے بن رہے ہیں۔ اس کی نشاندہی کیجیے۔



عائشہ: دیکھو ان مکانات کی سرحدی دیواروں کی جالیوں پر بھی نمونے یا نقش موجود ہیں۔



جالیوں کا کونسا حصہ دہرا یا جاربا ہے جس سے نمونے بن رہے ہیں۔ پہچانیے۔


بس اسٹاپ پر ایک درخت کے نیچے لڑکیاں کھڑی بس کا انتظار کر رہی تھیں۔

آمنہ: عائشہ دیکھو ڈنڈی پر پتے ایک نمونے کی طرح اُگ رہے ہیں۔

بس میں سفر کے دوران آمنہ اور عائشہ اس پل پر سے گزرے۔



کیا آپ اس پل کی تعمیر میں کسی نمونے کو محسوس کرتے ہیں؟ (a)



سوچیے! آپ اپنے اطراف و اکناف پائے جانے والے کوئی چیزوں میں نمونے کا نظرہ کرتے ہیں؟

آمنہ اور عائشہ نے میلے میں اپنے لیے موتیوں کی لڑیاں خریدیں۔



مندرجہ میں لڑیوں میں موتیوں کی ترتیب کو پہچانئے اور ترتیب کے مطابق اس کو آگے بڑھائیے۔ (1)

- (a)
- (b)
- (c)
- (d)

میلے میں لڑکیوں نے مزید خوبصورت ہار دیکھے وہ یہاں پر بتالائیے گئے میں ان کی ترتیب کی نشاندہی کرتے ہوئے موتیوں کا اضافہ کیجئے۔ (2)

- (a)
- (b)
- (c)
- (d)
- (e)

(1) تین مختلف ترتیب کی لڑیاں بنائیے۔

بدلتے نمونے

دو پہر کے کھانے کے دوران یہ پچ میدان میں کھلیں رہے ہیں۔
کیا آپ ان کے کھڑے رہنے کے طریقہ میں کسی ترتیب کو محسوس کر رہے ہیں؟








یہ پچ کھو کھلیں رہے ہیں۔
کیا آپ ان کے بیٹھنے میں کوئی ترتیب محسوس کر رہے ہیں؟



ہاں! ہر لڑکی اپنے بازو کی لڑکی سے مخالف سمت میں رخ کر کے بیٹھی ہوتی ہے۔

1) ان ترتیبوں کو آگے بڑھائیے۔



اعداد کی ترتیب

دیئے ہوئے اعداد کے سلسلے میں ترتیب کی نشاندہی کیجئے۔

(1) دیئے گئے اعداد کے سلسلے میں آگے آنے والے تین اعداد کیا ہوں گے؟

- (a) 2, 4, 6, 8, _____
- (b) 1, 3, 5, 7, _____
- (c) 3, 6, 9, 12, _____
- (d) 11, 15, 19, 23, _____
- (e) 15, 13, 11, 9, _____
- (f) 21, 27, 33, 39, _____
- (g) 25, 20, 15, 10, _____
- (h) 3, 6, 9, 15, _____
- (i) 8, 16, 24, 32, _____
- (j) 35, 28, 21, 14, _____
- (k) 50, 40, 30, 20, _____
- (l) 9, 19, 29, 39, _____
- (m) 45, 54, 63, 72, _____

ان سلسلوں میں متصلہ اعداد کے درمیان کی رشتہ ہے۔

ان میں کچھ سلسلے بڑھتی ہوئی ترتیب میں ہیں۔

ان میں کچھ سلسلے گھٹتی ہوئی ترتیب میں ہیں۔

2) ان اعداد کے سلسلوں میں ترتیب کی نشاندہی کرتے ہوئے آگے بڑھائیے۔

- (a) 3, 6, 12, 24 _____
- (b) 4, 8, 16, 32 _____
- (c) 32, 16, 8, 4 _____
- (d) 2, 6, 18, 54 _____
- (e) 5, 20, 80 _____
- (f) 800, 400, 200 _____

مئی - 2013

S	M	T	W	Th	F	Sa
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

کیلندر میں ترتیب

کیلندر میں بتائیے گئے کوئی 9 اعداد کا انتخاب کیجئے۔

ان کا مجموعہ کیا ہے؟

عшиہ نے اعداد کو جمع کیا۔ $189 = 13+20+27+14+21+28+15+22+29$

نازیہ: میں اس کو جلد کر سکتی ہوں میں صرف درمیان کے عدد کو 9 سے ضرب دے کر جواب حاصل کر سکتی ہوں۔ $9 \times 21 = 189$

مئی - 2013

S	M	T	W	Th	F	Sa
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

اب، کیلندر میں دیئے گئے کوئی 5 اعداد کا انتخاب کیجئے۔

ان کا مجموعہ کیا ہے؟

عшиہ نے اعداد کو جمع کیا۔ $80 = 2+9+16+23+30$

نازیہ نے کہا۔ میں اس کو بھی تیزی سے حل کر سکتی ہوں۔ میں صرف درمیان

کے عدد کو 5 سے ضرب دے کر جواب حاصل کر سکتی ہوں۔

کیا نازیہ صحیح ہے؟

پر کیجئے

1) مندرجہ بالاطریقے سے کوئی دوسرے 9 اعداد لیجئے۔ معلوم کیجئے کہ کیا ان 9 اعداد کے لیے بھی یہ عمل درست ہے؟ آپ

کسی بھی کیلندر کا کوئی بھی مہینہ لے سکتے ہیں۔

2) کیلندر سے کوئی دوسرے 5 اعداد لیجئے۔ معلوم کیجئے کہ ان 5 اعداد کے لیے بھی یہ عمل درست ہے؟ آپ کسی بھی کیلندر کا کوئی

بھی مہینہ لے سکتے ہیں۔

ریاضی ہمارے گرد پیش

ایک ہفتے کے بعد سنتو ش کے بہن کی شادی ہونے والی ہے۔ گھر میں ہر کوئی تیاری میں مصروف ہے۔



آج سنتو ش اس کی بہن انیتا اور ان کے والدین کپڑوں کی خریداری کے لیے بازار جا رہے ہیں۔ انیتا اور اس کی ماں اپنی پسندیدہ ساڑیوں کی دکان میں داخل ہوئے۔ انہوں نے کئی ساڑیاں دیکھیں اور ذیل میں دی گئی ساڑیوں کا انتخاب کیا۔



₹ 1500



₹ 2000



₹ 3200



₹ 850



₹ 1300

ہر ساڑی کے مختلف نمونوں پر غور
کیجئے اور اپنی ماں کی ساڑیوں
کے نمونوں پر بھی غور کیجئے۔

سائزیوں پر انہوں نے جملہ کتنی رقم خرچ کی؟ (1)

اگر وہ دکاندار کو 9000 روپے دیں گے تو وہ انہیں کتنی رقم واپس کرے گا؟ (2)



جبکہ سنتوش اور اس کے والد بھی مردانہ کپڑے دیکھنے لگئے۔

انہوں نے اپنے لیے بھی شرٹس اور پتلون خریدے۔

ذیل میں دکاندار کی دی ہوئی رسیدی گئی ہے۔ کیا آپ اسے مکمل کر سکتے ہیں؟ (3)

شے	قیمت فی میٹر	رقم
1 میٹر 50 سمر پتلون کا کپڑا	150 روپے	
1 میٹر 50 سمر پتلون کا کپڑا	220 روپے	
2 میٹر شرٹ کا کپڑا	140 روپے	
2 میٹر شرٹ کا کپڑا	125 روپے	
جملہ		

شادی کے لیے مٹھائی کی خریدی

اس کے بعد وہ مٹھائی کی دکان گئے۔ انہوں نے ایک کلوگرام لڈو کو 120 روپے اور ایک کلوگرام بالوشہی کو 150 روپے کے حساب سے 20 کلوگرام لڈو اور 20 کلوگرام بالوشہی کا آرڈر دیا۔




وہ مٹھائی والے کو کتنی رقم ادا کریں گے؟ (1)

سنتوش نے دکاندار کو آدھا کلوگرام کے ڈبوں میں

لڈوپیا کرنے کے لیے کہا۔ انہیں دکاندار
کتنے ڈبوں میں لڈو دے گا؟

شادی کے قرعوں کو پوسٹ کر زیر یعنی بھیجننا

ستوش اس کے بعد اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو شادی کے رقعے پوسٹ کرنے کے لیے پوسٹ آفس گیا۔ پوسٹ ماسٹر نے ستوش کو بتایا کہ ایک رقعہ کا وزن 35 گرام ہے۔



(1) ستوش 200 روپے پوسٹ کرنے کے لیے پوسٹ ماسٹر کو کتنی رقم ادا کرے گا؟


افراد خاندان اپنی شاپنگ اور دن بھر کے کام کی تکمیل کے بعد خوشی خوشی واپس ہوئے۔

سفر کی تیاری:

شادی کی تقریب دلہنے کے گھروں میں ہونے والی تھی۔ خاندان کے کئی افراد شادی میں شرکت کرنے والے تھے۔ اس لیے ستوش کے والد نے بسوں کو کرایہ پر لینے کا رادہ کیا۔ دوسرے دن ستوش اور اس کے والد بس ایجنسی گئے۔ اس کے والد نے اندازہ لگایا کہ 40 خاندانوں میں ہر خاندان سے 4 افراد شادی میں شرکت کریں گے۔

(1) شادی میں شرکت کے لیے تقریباً کتنے لوگ سفر کریں گے؟

ایجنسی والوں نے انہیں بتایا کہ ہر بس میں سیٹوں کے 15 صفتیں اور ہر صفت میں 4 افراد بے آسانی بیٹھ سکتے ہیں۔



- (1) ایک بس میں کتنے افراد بیٹھ سکتے ہیں؟
- (2) ایسی کتنی بسوں کی ضرورت پڑے گی؟
- (3) والد کے اندازے کے مطابق کیا کسی بس میں شادی کے لیے سفر کرنے والے افراد کے علاوہ بھی کیا کوئی سیٹ خالی رہے گی؟

والد بس ایجننسی کو فی کلومیٹر 12 روپے ادا کرنے پر راضی ہوئے۔

(1) اگر عادل آباد سے ورگل جانے اور ہاں سے واپسی کا فاصلہ 500 کلومیٹر ہو تو والد ایک بس کے لیے کتنے روپے ادا کریں گے؟ کرایہ پر لے جانے والی تمام بسوں کے لیے وہ کتنے روپے ادا کریں گے؟

(2) اگر والد بس ایجننسی کو 4500 روپے پیشی کرے تو انہیں گھرو واپسی پر مزید کتنی رقم ادا کرنی ہوگی؟

شادی کے لیے ورگل روائی

شادی کے دن سب باراتی عادل آباد سے صبح 7 بجے روانہ ہوتے ہیں۔

سری : ہم ورگل کب پہنچیں گے؟

آنٹی : اگر ہم کہیں بھی نہ کیں تو 5 گھنٹوں میں پہنچ سکتے ہیں۔

سری : اب سات نج رہے ہیں اور ہم بج تک پہنچ جائیں گے۔

چرن : ہم کو جانے کے لیے پانچ گھنٹے درکار ہیں جس کا مطلب ہے کہ ورگل بہت دور ہے۔

آنٹی : تقریباً 250 کلومیٹر ہے۔

سری : کیا ہم کہیں رکیں گے؟

آنند : ہو سکتا ہے ہم کریم گنگ پر رکیں گے جو یہاں سے تقریباً 180 کلومیٹر ہے۔

(1) بسیں کریم گنگ کب پہنچیں گی؟

10 بجے سے پہلے (a)

10 اور 11 بجے کے درمیان (b)

11 بجے کے بعد (c)

اب پھوں اور بڑوں نے اتنا کشیری کھینا شروع کر دیا اور بس سریلی آوازوں سے گونجنے لگی جبکہ بڑے بزرگ خوبصورت جنگلات اور پہاڑیوں کے نظاروں سے لطف انداز ہو رہے تھے۔



بس جب عادل آباد کی سرحد پر واقع دریائے گوداواری کے ریاپٹنم پل پر پہنچی تو پچھے پر جوش ہو کر کھڑکیوں کے باہر دیکھنے لگے۔

انو: واہ! دیکھو گوداواری کتی خوبصورت ہے۔ یہ بہت بڑی ندی ہے۔

عارف : اوہو! کیا 100 میٹر چوڑی ہے؟
 مادھوی : نہیں، آدھے کلومیٹر سے زیادہ چوڑی ہونی چاہئے۔
 آنٹی : دیکھو! بہاں لکھا ہے پل کی لمبائی 863 میٹر ہے۔ اس لیے دریا تقریباً 600 میٹر سے زیادہ چوڑی ہونی چاہئے۔

اگر بس کی لمبائی جس میں باراتی سفر کر رہے تھے 5 میٹر ہو تو پل پر ایک ہی قطار میں کتنی بسیں ٹھہر سکتی ہیں؟


کریم نگر پر توقف

گوداواری، اس کی خوبصورتی اور اس کی طغیانیوں پر بات چیت کرتے ہوئے باراتی کریم نگر پہنچ۔ وہ توقف کرنا چاہتے تھے۔ تمام بڑے چائے پینا چاہتے تھے جبکہ نچے اور جوان شربت کو ترجیح دے رہے تھے۔ دکاندار کو 90 پیالی چائے کے لیے کہا گیا اور بچوں کے لیے ڈھائی لیٹر شربت کی 4 بولیں خریدی گئیں۔



- | | |
|--|--|
| شربت کتنے لیٹر خریدا گیا؟ (1) | |
| اگر ایک شخص ایک گلاس شربت پیتا ہے جبکہ ہر گلاس میں 100 ملی لیٹر شربت ہو تو کتنے لیٹر شربت پیا گیا؟ (2) | |
| اگر ایک پیالی چائے کی قیمت پانچ روپے ہو تو چائے کے لیے کتنے روپے ادا کرنے ہوں گے؟ (3) | |
| اگر ایک لیٹر شربت کی قیمت 18 روپے ہو تو شربت کے لیے کتنی رقم ادا کرنی ہوگی؟ (4) | |

پھولوں کی خریداری



سب چائے پیر ہے تھے۔ سنتو شد لے والوں کے لیے پھول خریدنے گیا۔ چنیلی کے پھول کے ہار خریدے جن کی جملہ لمبائی 35 ہاتھ ہے۔

چنیلی کے پھول کے ایک ہاتھ لانے کتنے تکڑوں سے ایک بار بننے گا؟ (1)

وہ دو پھر 1:30 بجے ورنگل پہنچے۔ انہیں ورنگل پہنچنے میں کتنا وقت لگا؟ (2)

دونوں خاندانوں کے لیے ورنگل میں شادی ایک خاص خوشی کا موقع تھا۔

کوشش کیجئے

(1) آپ کو اپنے خاندان میں شادیوں کے دوران کس قسم کے حسابات کرنے پڑتے ہیں؟

(2) جب آپ کے اپنے افراد خاندان تفریح کرتے ہیں تو کس قسم کے حسابات کی ضرورت پڑتی ہے؟

علم کے لیے رہنمایاں خطوط

نصاب و طریقہ تدریس پر مبنی

پیارے اساتذہ!

اس کتاب میں 17 باب ہیں۔ وسیع طور پر یہ دو شعبوں کا احاطہ کرتے ہیں۔ اعداد اور جگہ۔ تھانوی سطح پر اعداد کی سمجھ بوجھ قائم کرنے میں بڑے اعداد کو پڑھنا، لکھنا اور ان کو سمجھنے کی الیت اور ساتھ ہی ساتھ چار بنیادی اعمال یعنی جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم میں مہارت پیدا کرنا ہوتا ہے۔ مختلف اعمال جیسے جمع اور تفریق کے درمیان اور ضرب اور تقسیم کے درمیان رشتہوں کا مشاہدہ بھی اس میں شامل رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اعمال کے تقلیلی اور بھی خصوصیات سے واقف کرنا ہوتا ہے۔ اعداد کی بڑھتی سوچ بوجھ میں عددی ترتیبوں سے مسابقه کرنے کی قابلیت لازمی طور پر موجود رہتی ہے۔ تقسیم کے فہم پر کسروں کو سمجھا جاتا ہے جس سے بچوں میں دوسرے کثیف نکات جیسے فی صدر، تناسب وغیرہ کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے اور اس کے بعد عددی سیٹ کا نشونما ہوتا ہے اور یہ سب وسطانوی جماعتوں میں واقع ہوتا ہے۔ جگہ کی سمجھ بوجھ کا مطلب سے ابعادی اور دو ابعادی اشکال میں دنیا کا مشاہدہ کرنا، D1 اور 2D اشکال سے دنیا کے درمیان قائم رشتے کو سمجھنا، مختلف مقامات سے دنیا کا تصویر کرنا اور مختلف نموں اشکال کی دنیا کو دریافت کرنا ہوتا ہے۔ پیاٹش میں جگہ سے متعلق اور جگہ سے غیر متعلق مختلف نکات جیسے طول، وزن، گنجائش، وقت اور احاطے کو عددی مقدار میں ظاہر کرنا پڑتا ہے اور ان تمام شعبوں میں چار اعمال کو استعمال کرنے سے عددی سمجھ کو تقویت ملتی ہے۔ اعداد اور جگہ دونوں میدانوں کا ایک اہم جزو اندرازہ لکھنا ہوتا ہے۔ ڈائٹ کو استعمال میں لانے کے عمل میں مختلف اقسام کے تصویری چارٹ اور گراف سے اعداد کا تصور کرنا شامل رہتا ہے۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ بچوں کو ریاضی کے عددی فضائی کے دنوں پہلوؤں سے لطف انہوں میں تعاون کریں۔

ایک تھانوی کمرہ جماعت میں ریاضی کے تعلیمی عمل کی نویعت کے متعلق بھی ہم آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ پہلے اس مرحلے میں طبعی اشیا کو استعمال کرنا ہمیلتہری ہے۔ چند طبعی اشیا جیسے پانسے، عددی کارڈ، 100 موتیوں کی لڑی، میرٹر کی سلاخ، پیٹشی ٹیپ، اوزان، گھری، کیلیڈر رخملف اشکال کے بکے، مختلف گنجائش کی بولیں، آئینہ وغیرہ کی تھانوی سطح پر ضروری ہوتی ہیں۔ دوسرے مختلف نکات کو معنی خیز طور پر پچوں کے تجربات سے جوڑ کر پیش کرنا ضروری ہوتا ہے جس سے پچھے کمرہ جماعت میں استعمال ہونے والی ریاضی اور یہ ورنی دنیا میں استعمال ہونے والی ریاضی کے درمیان پائے جانے والے رشتے کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کتاب میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ نکات کو ایسی صورتوں میں پیش کیا گی جنہیں پچھے آسانی سمجھ سکیں اور ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ مزید والات اس طرح کریں کہ جو ریاضی کے نکات کو مقامی حالات سے جوڑنے میں پچوں کے لیے مددگار ثابت ہو سکیں۔ پچوں کو کچھ اپنے خود کے سوالات بنانے اور ان کو حل کرنے پر ابھاریں۔ تیسرے، ایک سوال یامسنے کو حل کرنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ پچوں کی بہت افرادی کریں کہ مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنے خود کے طریقہ گار کو استعمال کریں اور انھیں اپنے طریقوں کے بارے میں ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کے لیے بھر پور موقع فراہم کریں۔ درحقیقت مل کر اکتساب کرنا کمرہ جماعت کے لیے سیئے کا ایک اہم ذریعہ ہوتا ہے اور پچوں کو جوڑ یوں اور گروپ میں مسائل کو حل کرنے کے لیے جو صدقے افرادی کرنا ضروری ہوتا ہے۔

ایک تعلیمی سال کے درمیان جب بھی ممکن ہو، آپ سے گزارش ہے کہ تعلیمی دوروں، میلیوں، ریاضی کی نمائش، اکتسابی گوشوں، کوئی، ریاضی کے کلب وغیرہ جیسی سرگرمیوں کا اہتمام کریں۔

آخر میں ہم آپ سے لگدا راش کرتے تھیں کہ تم اب باب کا بغور مطالعہ کریں اور اس کے مطابق منصوبہ بندی کرتے ہوئے کمرہ جماعت میں داخل ہونے سے قبل تیاری کر لیں۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ آگرآ پ تدریس سے قبل باب میں دینے گئے سوالات و مسائل کو قبل از وقت حل کر لیں تو تدریسی عمل میں کافی فائدہ ہو گا۔ اس بات کی بھی توقع کی جاتی ہے کہ آپ نکات کو قائم کرنے کے لیے درکار تدریسی و اکتسابی اشیا (TLM) جن کی بھی ضرورت لاحق ہوتی ہے، جیسے لمبائی کے لیے میٹر کی رسی، انچائش کے لیے ایک لیٹر کی بوتلیں وغیرہ کا انتظام کر لیں۔

کتابوں کے متعلق نوٹ: مسائل و سوالات کے حل کے لیے نہ صرف باب کے ختم پر بچوں کے لیے جگہ فراہم کی گئی ہے بلکہ باب کے درمیان مختلف مرحلوں پر بھی اس کا موقع دیا گیا ہے۔ درحقیقت نکات کو تعمیر کرنے کا عمل ایک ایسا عمل ہے جس میں بچہ کتابی مواد کے ساتھ تبادلہ حیال کرتا ہے اور واقعہ و قفسے سے جو بھی وہ صحبت ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے جگہ میں ایسا کی گئی ہے۔ ”جیجی، مشق بچوں کو سیکھنے کے نکات پر دوہرائے کاموں فراہم کرتی ہے اور اس مشق کو بچے خود سے کرنا چاہیے۔“ کوشش کیجیے، مشق میں ان کے لیے ایک چیز کا عنصر پایا جاتا ہے اور بچوں کو سوچنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ ”سوچے اور گفتگو کیجیے“ سوالات بھی اپنے اندر چیاخ کا عنصر رکھتے ہیں اور یہ جوڑیوں اور گروپ میں کیے جانے والے کام ہیں۔ باب کے آخر میں دی گئی ”مشق“ باب میں موجود تمام اکتسابی نکات کا احاطہ کرتی ہے۔

چند باب واری ریسنا مایانہ خطوط ذیل میں دیئے گئے ہیں

اشکال:

- ☆ پچوں کو اپنے اطراف والے اشیاء میں دو ابعادی اور سے ابعادی شکلوں کی نشاندہی کی ترغیب دیں۔
- ☆ پچوں کو اس بات کی بھی ترغیب دیں کہ وہ حقیقی سے ابعادی اشیا لیکر ان کا جائزہ لیں تاکہ ان کی خصوصیات سے بخوبی واقف ہو سکیں۔
- ☆ تعریفات فراہم کرنے کے بجائے پچوں کو ان خصوصیات کا جائزہ لینے کا بھرپور موقع اور درکار جگہ مہیا کریں۔
- ☆ پچوں کو ترغیب دیں کہ وہ مختلف قسم کے باکس کھولیں اور ان کی جال کا مشاہدہ کریں۔
- ☆ ایسے حالات پیدا کئے جائیں کہ جہاں بچے مختلف اشیا اور ان کے مقام کا مختلف پہلوؤں سے جائزہ لے سکیں اور انہیں اس بات کی بھی ترغیب دیں کہ جو وہ دیکھتے ہیں اتنا ریں۔
- ☆ مدرسہ، محلے اور گاؤں وغیرہ کے چند مقامی نقشہ جات دکھا کر پچوں کو ان میں مقامات کی نشاندہی کرنے کی حوصلہ افزائی کریں۔

اعداد:

- ☆ پچوں کو عشری نظام سمجھانے کے لیے 100 موٹیوں والی لڑی، عددی خط اور 100 کے جدول کو استعمال کریں۔
- ☆ پچوں کو ہندسوں کے استعمال سے اعداد بنانے اور ان کے تقابل کرنے کے خاطر خواہ موقع پچوں کو فراہم کریں۔

جمع اور تفریق:

- ☆ بڑے اعداد کی جمع اور تفریق کرنے اور مجموعہ اور فرق کا اندازہ لگانے میں پچوں کی ہمت افزائی کریں۔
- ☆ پچوں کو جوڑنا، تقابل اور تبدیل کرنے کے نمونوں پر مشتمل زیادہ سے زیادہ عبارتی سوالات تیار کریں اور ان کو حل کرنے کے لیے دیں۔ پچوں کو جمع، تفریق اور دونوں عمل پر مشتمل عبارتی سوالات کو حل کرنے کے موقع فراہم کرنا بھی ضروری ہے۔

ضرب:

- ☆ پچوں میں بڑے سے بڑے اعداد کو ضرب دینے اور حاصل ضرب کے بارے میں اندازہ لگانے کے لیے حوصلہ افزائی کریں۔
- ☆ ہر قسم کے عبارتی سوالات جو گروہی، کاریزی حاصل ضرب سادہ ضرب راست ضرب (جماعت پنج میں) کو استعمال کرتے ہوئے حل کرنے کے لیے دیں۔ ضرب کے عبارتی سوالات بنانے کے پچوں کو زیادہ سے زیادہ موقع فراہم کریں۔
- ☆ پچوں کو یہی قانون کے استعمال کے ذریعہ اعداد کو 100، 100 وغیرہ پر علیحدہ کر کے ضرب دینے کا خاطر خواہ موقع فراہم کریں۔
- ☆ ضرب اور تقسیم کے درمیان پائے جانے والے رشتہ کو سمجھنے اور اسی طرح ضرب کے تقلیلی اور یہی خصوصیات سے بخوبی واقف ہونے میں پچوں کی حوصلہ افزائی کریں۔

تفصیل:

- ☆ بڑے اعداد کی تقسیم اور خارج قسمت کا اندازہ لگانے کے لیے طلبہ کی ہمت افزائی کریں۔
- ☆ تمام اقسام کے عبارتی سوالات کی تشكیل۔ مساوی اشتراک اور گردop کے اور پچوں کو حل کرنے کے لیے کہیں۔ پہلے اہمیت کا حامل ہے کہ پچوں سے عمل تقسیم پر عبارتی سوالات بنانے کا موقع فراہم کریں۔

کسور:

طلبا اپنی روزمرہ کی زندگی میں آدھا، پاؤ اور تین گناہ کا استعمال کرتے ہیں۔ انہیں اس بات کی واقفیت نہیں ہوتی کہ وہ کسور ہیں۔ بچوں کو کسور سے آگاہ کروائیں۔

☆ کسور کو سمجھاتے وقت اس بات پر اہمیت دیں کہ کسر کسی مکمل شے کے حصے یا گروپ کے حصوں کے مساوی ہوتے ہیں۔

☆ کسور کو اور ان کی تقسیم کو عددی خط پر بھی ظاہر کیا جاسکتا ہے۔

پیمائشات:

طول، وزن، وقت اور حجم وغیرہ کی تمہیدی گئی ہیں۔ بچوں کو ان سے واقف کروائیں۔

☆ طلباء تمام سے واقفیت حاصل کرتے ہوئے کمہ جماعت میں اس کا اطلاق کر پائیں گے اور آپس میں تبادلہ خیال کریں گے۔ بچوں کے والدین بچوں سے اس قسم کے اقسام کے طول، وزن اور وقت معلوم کرنے میں ان کی مدد کریں۔

☆ طول، وزن، حجم اور وقت کی بہترین واقفیت کے لیے طول کتنے سنتی میٹر، کتنے کلومیٹر، کتنا وزن، چند گرام، کتنا وقت وغیرہ کی وضاحت کے لیے ایک میٹر سی، ایک کلوگرام وزنی ریت کی تھیلی کے علاوہ حقیقی اوزان سے واقفیت کروانا۔

☆ جہاں کہیں ممکن ہو منصوبہ کام دنیا اور فلیڈٹرپ پر لے جانا، تاکہ بچوں کی صلاحیتیں اجاگر ہوں اور وہ پیاپی ایشات کو اچھی سمجھ کر ان کے مختلف اکائیوں میں تبدیل کر سکیں۔

نمونے:

☆ بچے قدرت میں پائے جانے والے اور انسان کے تیار کردہ نمونوں کو اپنے اطراف و اکناف دیکھتے ہیں۔ بچوں کو ان کی شناخت کرنے میں ان کی مدد کریں۔

☆ بچوں کو صرف نمونوں کی پہچان تک بھی محدود رکھیں بلکہ انہیں مختلف نمونے تیار کرنے کی طرف راغب کریں۔

☆ اعداد کی مختلف ترتیب کی تیاری میں بچوں کی حوصلہ افزائی کریں۔

تشاکل:

☆ بچوں کو اطراف و اکناف پائے جانے والے اشیاء میں تشاکل کی نشاندہی کرنے کو کہیں۔

☆ قدرتی ماحول میں پائے جانے والے تشاکل کی مناظر پر غور کرنے کو کہیں۔

☆ خط تشاکل کی تفہیم کے لیے کمہ جماعت میں آئینہ کا استعمال کرتے ہوئے اس کی وضاحت کریں۔

معطیات:

☆ بچوں کو معطیات اکٹھا کرنے کے لیے موقع فراہم کرنا۔ جو اپنے ماحول میں پائے جانے والے گھرومدڑے سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی مختلف ترتیب، جیسا کہ جدول تیار کرنا، تصویری گراف، بار گراف وغیرہ۔

نصاب

I- تفہیم کی وسعت (16 گھنٹے):

اشکال اور ان کے فہم کی وسعت

- سے ابعادی (3D) اشکال کی پیچان (ان کے نام لیئے بغیر)
- سے ابعادی اشکال کے کونے اور کناروں کی شناخت
- 3D اشکال میں لڑھنے والے اور پھسلنے والوں میں انتیاز۔
- سادہ اجسام کے مختلف پہلو جیسے اگلارخ، اوپری رخ اور جانبی رخ کی شناخت
- مکعب اور بکعب نما جاگیوں کی پیچان
- دو ابعادی اشکال جیسے مستطیل، مریع، مثلث اور دائرہ کی نام سے شناخت
- اجسام میں دو ابعادی اشکال کی شناخت
- واقف 2D اشکال کی مدد سے تصاویر تیار کرنا
- نقاطی بورڈ پر مختلف شکلیں تیار کرنا
- احاطہ کی تمہید اور اس کو محضوب کرنا
- خط اشکال کا انکاس، کاغذ کو کاٹ کر اور موڑ کر سمجھانا۔

نمونے (3 گھنٹے):

- شناخت، ان کو آگے بڑھاتے ہوئے مختلف نمونوں کی شناخت کروانا۔

II- اعداد (40 گھنٹے): اعداد 1000 تک

- عبارتی سوالات کے ذریعہ 2 اور 3 ہندسی اعداد کو پڑھنا، لکھنا اور مقابل کرنا۔
- عددی خط پر 2 اور 3 ہندسی اعداد کا اظہار
- 2 اور 3 ہندسی اعداد میں مقامی قیمتیوں کی وضاحت۔
- مقامی قدر کو استعمال کرتے ہوئے اعداد کا پھیلاؤ۔
- دیئے گئے ہندسوں کا استعمال کرتے ہوئے اعداد بنانا۔

جمع و تفریق:

- عبارتی سوالات کے استعمال سے 999 تک کی جمع اور تفریق کروانا (جمع، تفریق کے ملے جلے سوالات کا حل)
- 2 اور 3 ہندسی اعداد کے مجموع اور فرق کا اندازہ لگانا۔
- دو ہندسی اعداد کی جمع و تفریق کو عددی خط پر ظاہر کرنا
- عبارتی سوالات تیار کرنا۔

عمل ضرب:

- عبارتی سوالات کے استعمال سے ایک یادو ہندسی اعداد کو ایک یادو ہندسی عدد سے ضرب دینا معياری (کالم) اور تقسیمی (تقریبی) قانون کا استعمال کرتے ہوئے (ضرب کی افقی ترتیب۔ قدری حاصل ضرب اور عبارتی سوالات کے گروہی اقسام)
- 10 اور 100 سے ضرب دینا
- عبارتی سوالات کی تشکیل
- $2 \times 2^3 \times 1^2$ کے حاصل ضرب کا اندازہ لگانا

عمل تقسیم:

- ماحول/ عبارتی سوالات کے استعمال سے 2 یا 3 ہندسی اعداد کو ایک یادو ہندسی اعداد سے تقسیم کرنا جس میں باقی حاصل ہوا اور مکمل تقسیم ہو (مساوی گروہی اور مساوی حصہ داری کو استعمال کرتے ہوئے)
- ایک ہندسی اعداد سے 2 یا 3 ہندسی اعداد کو تقسیم کر کے خارج قسمت کا اندازہ لگانا
- عبارتی سوالات بنانا
- ایک یادو ہندسی اعداد کو استعمال کرتے ہوئے ضرب اور تقسیم میں رشتہ کو واضح کرنا۔

کسوری اعداد:

- ایک مکمل کا نصف، ایک چوتھائی اور تین چوتھائی کی شناخت
- $1/2$ ، $1/4$ اور $3/4$ کسور کی شناخت
- $1/2$ ، $1/4$ اور $3/4$ کی وضاحت
- یکساں کسور کا مقابل، جمع اور تفریق کو آسانی سے سمجھنا۔

نمونے (3 گھنٹے):

- پہلوں کو جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم کے اصولوں پر مشتمل اعداد کے نمونوں سے واقف کروانا۔
- III۔ پیاس (21 گھنٹے)

طول

- میٹر اور سنتی میٹر سے واقفیت
- میٹر کو سنتی میٹر میں ظاہر کرنا۔
- میٹر کو سنتی میٹر بدانا
- طول کی پیاس میٹر، سنتی میٹر اور اچھی میں کرنا
- کسی بھی شے کا طول اور دو دیے گئے مقامات کے درمیانی فاصلہ کا اندازہ لگانا۔
- طول اور فاصلوں کے میٹر اور سنتی میٹر پر مبنی سوالات کو حل کرنا۔

وزن

- حقیقی وزن اور مجازی وزن کو استعمال کرتے ہوئے کلوگرام اور گرام کے رقوم میں وزن کو سمجھانا۔
- کلوگرام کو گرام میں ظاہر کرنا۔
- کسی شے کے وزن کا اندازہ لگانا اور ترازو کی مدد سے تصدیق کرنا
- وزن پر مبنی سوالات کلوگرام اور گرام کے استعمال سے حل کرنا۔
- وزن سے متعلق گفتگو کو فروغ دینا۔

گنجائش

- لیٹر اور ملی لیٹر کے قوم میں گنجائش کو سمجھتے ہیں
- لیٹر کو ملی لیٹر میں ظاہر کرنا
- معیاری اکائیوں کے برتاؤ کے استعمال سے مائع کی پیمائش کرتے ہیں
- مائع کے گنجائش کا اندازہ لگاتے ہیں اور پیمائش کر کے تصدیق کرتے ہیں
- گنجائش پر مبنی سوالات لیٹر اور ملی لیٹر کے استعمال سے حل کرنا

وقت:

- منٹ، گھنٹے، دن اور مہینے کے رقوم میں وقت کے فرق کو سمجھتے ہیں۔
- کلینڈر پڑھتے ہیں اور دنوں کو ہفتہ میں، ہفتوں کو مہینے میں، مہینوں کو سال میں شناخت کرتے ہیں۔
- سمجھتے ہیں کہ جس سال فروری کے مہینے میں ایک زائد دن ہوتا ہے وہ سال کبیسہ کہلاتا ہے۔ اور یہ ہر چار سال میں ایک مرتبہ آتا ہے۔
- کلینڈر میں تاریخ کے مقابل دن کو دہرائیں گے۔
- گھری کے وقت کو گھنٹوں اور منٹ میں پڑھتے ہیں۔
- مسائل کو حل کرتے ہیں۔

۱۷) معطیات (6 گھنٹے):

- تصویری گراف کی مدد سے معطیات کو پڑھتے ہیں۔
- باکس چارٹ (بار گراف) کی مدد سے معطیات کو پڑھتے ہیں۔
- گنتی کے نشانات (Tally Marks) کے استعمال سے معطیات کا اندرج کرتے ہیں۔
- دن بہ دن ریاضی (5 گھنٹے) (رقم، طول، وزن، گنجائش، جگہ)
- ایک یا اس سے زائد تصویر / ایک یا اس سے زائد اعمال / ایک سے اس سے زائد مراحل کو استعمال کرتے ہوئے عبارتی سوالات کو حل کرتے ہیں۔
- روزمرہ زندگی میں قیاس کرنا / اندازہ لگانا

تعلیمی معیارات

تعلیمی معیارات ایسے واضح بیانات ہیں جن میں طلباء کن معلومات کو حاصل کریں گے اور کونے اعمال کرنے کے قابل ہوں گے یہ ظاہر کیا جاتا ہے۔

ذیل میں ان زمروں (درجات) کو پیش کیا گیا ہے جن کی بنیاد پر ہم تعلیمی معیارات تشکیل دیتے ہیں۔
مسئلہ کا حل:

ریاضی کے مسائل کے حل کے لیے تصورات اور طریقہ عمل کو استعمال کرنا۔

(a) مسائل کے اقسام:

مسائل کئی اقسام کے ہو سکتے ہیں جیسے معما (Puzzle)، عبارتی سوالات، تصویری سوالات، عملی سوالات، مواد جدول اور ترسیم وغیرہ کا مطالعہ

(b) مسئلہ کے حل کے مرحلے:

● مسئلہ کا مطالعہ

● مواد یا معلومات کے تمام اجزاء کی شناخت

● متعلقہ معلومات کو علاحدہ کرنا

● پائے جانے والے تصورات کا فہم

● طریقہ عمل کا انتخاب

● مسئلہ کو حل کرنا

(c) پیچیدگی:

کسی مسئلہ کی پیچیدگی کا انحصار حسب ذیل پر ہوتا ہے۔

● منسلک کرنا (جیسا کہ ربط میں بتایا گیا ہے)

● مسئلہ میں موجود مراحل کی تعداد

● مسئلہ میں موجود اعمال کی تعداد

● مسئلہ میں موجود سلسلی ہوئی عبارتوں کی تعداد

● مسئلہ میں موجود طریقہ عمل کی نوعیت

استدلالی ثبوت

● مختلف اقدامات کے درمیان استدلال (بشرطیں ناقابل تبدیل صورت حال)

- ریاضیاتی عمومیت اور صورت حال کا فہم اور تشكیل
- طریقہ عمل کا فہم اور وضاحت
- منطقی بحث کا جائزہ
- ثبوت کے تصور کا فہم
- استقرائی و استخراجی استدلال کا استعمال
- ریاضیاتی استدلال کی جائج

اظہار

- ریاضیاتی عبارت پڑھنا اور لکھنا
- مثلًا: $3+4 = 7$, $3/4$
- ریاضیاتی عبارتوں کی تشكیل۔
- ریاضیاتی تصورات کو اپنے الفاظ میں واضح کرنا۔ جیسے مربع ایک بندشکل ہے جس کے چار ضلع مساوی ہوتے ہیں اور چاروں زاویہ بھی مساوی ہوتے ہیں۔
- ریاضیاتی طریقہ عمل کو واضح کرنا جیسے دو ہندسی اعداد کی جمع میں پہلے اکائی کے ہندسوں کو جمع کرنا اور بعد میں حاصل کو مد نظر رکھتے ہوئے دہائی کے ہندسوں کو جمع کرنا
- ریاضیاتی منطق کی وضاحت۔

ربط:

- ریاضیاتی علاقہ میں تصوارت میں ربط پیدا کرنا۔ جیسے جمع اور ضرب میں تعلق، ایک کل کے حصوں کی نسبت اور تقسیم میں تعلق نہ نہیں اور تناکل میں تعلق، جگہ اور پیمائش میں تعلق
- روزمرہ زندگی میں ریاضی سے تعلق پیدا کرنا۔
- مختلف مضامین سے ریاضی کا تعلق پیدا کرنا۔
- ریاضی کے مختلف تصورات کا تعلق پیدا کرنا جیسے معطیات کا اظہار اور حساب یا حساب اور جگہ میں تعلق تصورات کو مختلف طریقوں سے جوڑنا

نمایندگی

- جدول میں دیئے گئے معطیات، عددی خط، تصویری گراف، بار گراف، دو ابعادی اور تصاویر اور اشکال کا مطالعہ اور تشرح کرنا
- جدول، عددی خط، تصویری گراف، بار گراف اور اشکال کو بنانا۔